

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸	نقش برائے اعمالِ حبیب و پیغمبر	۲	عرضِ ناشر
۵۲	برائے موافقت زن و شوہر	۷	پیش لفظ
۵۲	برائے تسخیر و حب	۸-۹	مقدمہ (۱) اللہ اکبر
۵۴	فہرست		
۶۱	برائے عبادت و رستگاری	۱۵	حضرت غامی عبدلرزاق اور لعین
۶۳	تباہی و بربادی و تہمتان	۱۷	تخت سلوٹ قدوہ السالکین
۷۰	برائے استخارہ	۲۰	ہدایات برائے عامل
۷۳	برائے فتوح رزق	۲۱	لوازمات لغوش
۷۴	کشائش رزق	۲۳	نقش کے اقسام اور اسکی اہمیت
۷۷	برائے فتوحات و دستِ غیب	۲۶	تعویذات کے اقسام
۷۷	برائے ترقی تجارت	۲۸	نقوش کا طریقہ استعمال
۷۹	دفع تنگی رزق	۲۹	نقش بھرنے کے اصول
۷۹	برائے محافظہ	۳۱	حروف تہجی کے اعداد
۸۲	امتحان اور مقدمہ کی کامیابی کیلئے	۳۲	طریق الترام رجال الغیب
۸۳	گمشدہ و مفرد کیلئے	۳۳	حل مشکلات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں

عوام کی خدمت میں ذریعہ معاش کے
مکمل عملیات اشرفی کے ذریعہ کس کی کتنی خدمت
ہو سکے گی اس کا اندازہ ناظرین کریں گے۔
کرتے ہیں لہجے کے چنے چبانے پر ہے ہیں
لہذا افعال سے گذارش ہے کہ کسی
بھی نسخہ کی نقل کر کے فیض آباد کوٹ کے کپڑے
میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ کریں اور نہ
ہی قیامت کے دن سرکارِ مخدوم اشرف
بہاگیر سمانی رحمۃ اللہ علیہ جاہی الزمین جلالہ آباد
ذوالعین اور مرثب شیخ نور الدین اشرف اشرفی
کے رو برو بصورت بزم کھڑے ہوں۔

بنا قلم

محمد شاہد حسین قادری

مالک ایجاز کڈ پوٹا ڈکریا اسٹریٹ، کلکتہ

اگر اس کتاب میں کوئی غلطی یا
خامی یا نہیں تو براہ کرم
صاحبِ مصنف کو آگاہ کریں
تاکہ دوسری اشاعت میں تصحیح ہو سکے

صفحہ	مصنوع	صفحہ	مصنوع
۱۰۰	دوکان مکان جانج مال کی عمارت	۸۸	منی کھانے کی عادت
۱۰۱	ڈراؤ نا خواب	۹۰	صدی بچوں کیلئے
"	باب الصلوٰۃ من الحاجات	۹۲	بہرا گو تکا ہوتا
۱۰۲	تناز حاجت	۹۲	سو کھنے کے مرض کیلئے
"	تناز رزق	۹۳	بوجھ کمزور ہو
"	نماز قلب	"	"
"	صلوٰۃ الشفا نماز اصلاح	۹۳	تظہیر
"	قصا حاجت - نماز کرامت	"	کایچ نکلنا یا مقعد کی نجات
۱۰۵	عورتوں کے آیا آئند	۹۵	زہر اتارنے کیلئے
"	برائے حمل اسقاط	۹۶	بچھو کا زہر
۱۰۶	محافظ حمل	۱۰۶	عمل سانپ جھارنے کا
"	برائے زیادتی شیر	۹۷	شفا اراض کیلئے
"	برائے فرزند نرسینہ	"	پیٹ میں کیڑا یا کدو دانہ
۱۰۸	پانچ عورت کا علاج	۹۸	برائے دغ کالی کھانسی
"	برائے حلاصی	۹۹	برائے روشنی چشم
"	برائے درد شکم	"	بخار کیلئے
۱۰۹	تھوٹے بچوں کے لئے	۱۰۰	چشم کے بخار کیلئے

صفحہ	مصنوع	صفحہ	مصنوع
۱۱۵	میعادی، ٹائیفائیڈ، موتی بھر	۱۱۰	برائے رجعت
"	لیلی چلنا یا نموتہ	"	شراب چھڑانے کے لئے
"	کان کا درد	۱۱۱	سحر یا جادو کا اثر
"	ہر طرح کا درد	"	دعا کے سینفی
۱۱۶	درد سہر	۱۱۳	بڑی عادت چھڑانے کیلئے
"	دل کی گھبراہٹ کیلئے	۱۱۵	زمارت بزرگان دین
۱۱۷	برائے پیچتی	۱۱۴	کشف القبر
۱۱۸	ناف کا ٹلنا	"	جائوروں میں وبا
۱۱۹	قوت ہاضمہ	۱۱۸	رجعت سے محفوظ رہنے کا عمل
۱۲۰	بو امیر خونی، بادی	۱۱۹	زیارت حضرت نصر علیہ السلام
"	برائے طحال	۱۲۱	آب حیات
"	برائے تپ و لہزہ و مرگی	"	برائے دغ جو با
۱۲۲	برائے دغ چیچک	۱۲۲	انگل سال کے گناہ معاف
"	نظر بد اور دیگر تمام بیماریوں	"	برائے حصار
۱۲۳	برائے دغ خارش	۱۲۳	برائے کشف
"	برائے دغ بندی پیشاب	"	برائے داغ بلیات جن آسیب
۱۲۴	برائے سیلان منی	۱۲۴	داغ سحر
۱۲۵	برائے حصول عطا	"	نقش پہل کاف

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶۱	عاضراتِ فاخر شاہ	۱۳۶	دخ دیو دسحر
۱۶۲	عمل یاد باب	۱۳۹	برائے سحر۔ لطائف اشرفی
۱۶۳	دین و دنیا کے آفات سے نجات	۱۴۰	برائے بیاد و لولہ
۱۶۳	نعم خواجگانِ چشت	۱۴۱	شناخت آسیب و سحر و جن
۱۶۵	عمل برائے تسخیر القلوب	۱۴۲	آسیب نظر آنے کا
۱۶۵	مکان کے سعادت و مصائب	۱۴۵	آسیب نظر آنے کا طریقہ سحر و جادو و ریاضت اشرفی
۱۶۸	طبی نسخے	۱۴۸	اسناد چہل کاف
۱۵۰	برائے درد گردہ، ہاتھیر کی جلن	۱۵۰	آسیب کا حصار
۱۵۲	قوت باہ	۱۵۲	شادی کے پیغام کثرت سے آئیں
۱۶۹	دانت کا درد، ذیابیطس	۱۵۵	اولاد کیلئے مجرب عمل
۱۶۰	برائے امساک، برائے قالج	۱۵۶	حمل کا قرار نہ پکڑنا
۱۶۰	برائے جریاں، بواسیر	۱۵۷	سامنے کانٹے کا مجرب عمل
۱۶۱	برائے اولاد	۱۵۸	متفرقات
۱۶۱	دھ	۱۵۹	دعا، اسمِ اعظم
۱۶۳	تیل برائے لغو	۱۵۹	برائے آسیب زدہ
۱۶۵	سفید داغ و دیگر امراض	۱۶۰	فلیدہ خاص حضرت مخدومؒ
۱۶۹	برائے عارضہ شکم	۱۶۰	برائے دشمنان
۱۷۲	برائے پتھری	۱۶۰	برائے عورت و حیاء

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعٰوَابَةُ لِلْمُتَعَمِّلِیْنَ وَالْعَسَاوَةُ

لِلْمُتَعَمِّلِیْنَ وَالْمُتَعَمِّلِیْنَ وَالْمُتَعَمِّلِیْنَ وَالْمُتَعَمِّلِیْنَ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ امام ابو عبد اللہ حضرت مولانا حکیم میرزا شاہ

عبدالہی اشرف سجادہ نشین درگاہ کچھوچھو شریف اپنے دور کے ایک جید عالم شاعر اور رہنما سب تقصایف کثیرہ تھے۔ آپ نے اپنے دور میں بہت سی کتابیں لکھیں اور ترجمے بھی کئے۔ ان میں عملیات کا یہ ترجمہ بھی شامل ہے۔ میں نے حضرت سجادہ نشین کی اسی بیاض سے کچھ نسخہ جات اور دعاؤں کا انتخاب کیا ہے جسے حضرت مولانا اپنے مریدوں کو پڑھنے کے لئے اور تعویذ کی شکل میں لکھ دیا کرتے تھے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ ایسے شائقین کو یہ کام مقصد ہے۔ چیکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔

عملیات اشرفی بفضلِ تعالیٰ عام میں ہی مقبول ہوئی تھی اور مزید نظر ثانی و ترمیم کی سزا
شان کی جا رہی ہے۔ اس میں اور لوگوں کے فائدہ کے لئے عملیات و نسخہ اشرفی کے دیگر ترجمے
دعا و کچھ بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ خواص عام زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور
اپنے ذہن و قلوب کو روشن کریں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِی الْقُیُوبِ وَطَّلَعُ عَلٰی مَا فِی السَّرٰوِثِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

اللَّهُ أَكْبَرُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
مُنْتَهَا أَوْسَطِ السَّمَوَاتِ

کے لئے تعویذات چھانڈھ کر کافر یا کفریہ زمانہ قدیم سے ہر قوم میں رائج ہے۔ آج جبکہ سائنس کا دور اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں کے ساتھ موجود ہے اور اس سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ ان تعویذات - دم وغیرہ کے خلاف ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان سے کام لیتے ہیں۔ لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ مہذب لوگوں میں اس قوت کو تسلیم کرنے کی ضرورت جو پہلے تھی وہ اب بھی موجود ہے۔

بوقت ضرورت اعمال اختیار کرنا اور نقوش لکھنا بجا تر کام ہے۔ نظریہ سے بچنے کے لئے مشہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے گلوں میں توہید ڈالا کرتے تھے۔ حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو دعائیں اور دعاؤں کا عظیم ذخیرہ مختلف امراض و تکالیف کیلئے پائیتے۔ حضرت ابوالحسن شافعی نے اپنی کتاب فوائد قرآنیہ میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی عیبیت درپیش ہو تو

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پڑھا کرو۔ عبداللہ بن مرید نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دس کلمات صبح کی نماز کے بعد ہمیشہ درود رکھے تو اس کی دس ماہتیں ہوں گی۔ حضرت محمد بن سلطان سید اشرف جہانگیر ہمنانی نے اپنی کتاب "ارشاد الاخوان" میں تحریر فرمایا ہے کہ جس شخص نے دعاؤں کے پڑھنے میں مداومت اختیار کی تو گویا وہ عبادت میں مشائخ سلف و برانِ جنت یعنی شیخ مودود ہشتی اور شیخ ابو سعید خدری اور شیخ علاء الحق طباطبائی اور شیخ علی بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہم و جعل الجنة مسواہم کی موافقت کرنے والا ہوگا۔

انحطاط کے اس دور میں جبکہ ہر طرف پیسہ کار حجام بڑھ رہا ہے جس سے تمام تر دماغی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان میں بیلڈ پریشر - سکر ڈیابی بیماریاں بارٹ ایک وغیرہ شامل ہیں ان سے بچنے کیلئے اللہ پر یقین اعمال و تعویذات اور بزرگانِ دین کے مزارات پر جا کر ہی بہت ہی مجرب ثابت ہوئی ہے۔ اور لوگوں کو ذہنی تناؤ سے نجات دلاتی ہے۔ چونکہ لوگوں کو پاس وقت کی کمی ہے اسلئے کام و تفریح دونوں کے ساتھ ساتھ دماغی اعمال میں ہی ایسے طریقوں کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے جس میں وقت کم صرف ہو۔ قوت زیادہ ہو اور سائنسی نظریہ سے بچا رہے درصحت ہوں اور ہر شخص جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق ان سے کام لے سکے۔ دھوکہ باز اور جاہل نام نہاد دماغوں سے محفوظ رہ کر مقصد حاصل کر سکے اور اس پیر سے بچل سکے۔

دعواتیہ قیلا لا با للہ
سیدہ فخر الدین اشرف

حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی

چونکہ اس کتاب کے ریسر اعلیٰ نمونہ عالم امیر کبیر تارک المملکت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز میں اس وجہ سے پہلے آئے ہیں کہ مستحسن تلامذہ ان کے تلامذہ ہیں۔

پانچویں صدی ہجری سے علماء دمشق پوری دنیا سے ہندوستان کی طرف آنا شروع ہوئے۔ ان کا مقصد ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ شریعت اور طریقت کی تعلیم دینا تھا۔ ان بزرگوں میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سرفہرست ہے۔ آپ سمنان (ایران) سے یکم سرور انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان آئے اور اپنے تبلیغی مشن سے ہزاروں گم کردہ لوگوں، مہاسیماں ستھ ورتار اور بھقیوں کو ایمان کی ابدی دولت سے سرفراز کیا اور ان کو حیات کی یقین ضمانت دی۔ آج بھی آپ کا مقد مبارک مرجع خلائق ہے جہاں پر ہزاروں ذہنی بیماریوں سے پریشان، ماسیکی امراض سے عاجز، جسمانی اعتبار سے نحیف و نزار، افراد شفا حاصل کرتے ہیں اور جن کا قلب بیمار ہو رہا ہے قلب کو آپ کے روحانی تہنوں سے منور کرتے ہیں۔ مؤرخین نے ان الفاظ میں آپ کو تعریف کی ہے۔

آپ یکا ذر روزگار تھے۔ شان رفیع ہمت بلند کرامات وافر کے مالک تھے۔ سلطان المشائخ کے بعد مشیخت اور ہدایت کے سلسلہ کو آپ نے از سر نو زندہ کیا۔ معانی کے بیان میں آپ کلام الہی لولہ نبوی اقوال مرتضوی اور اصحاب کرام کے ترجمان تھے۔ آپ حضرت شیخ علاء الحق والدین بنگالی تدریس سترہ کے مرید و خلیفہ تھے۔

کشمیر کے امیر نے آپ کے آگے بیان کیا کہ میں نے آپ کا دل سے شوق محبت کے شعلے اٹھتے تھے۔

"لوگ آپ کو سید جہانگیر کہا کرتے تھے۔ آپ صاحب کرامات تھے اور بڑے کامل ولی اللہ تھے۔ آپ سید علی ہمدانی کے رفیق سفر ہے تھے بالآخر ہندوستان آ کر شیخ علاء الدین کے مرید ہوئے۔ مرید ہونے سے قبل ہی آپ کشف و کرامات کے مقام علیا حاصل کر چکے تھے۔ معانی اور توحید کے بارے میں آپ بڑی بلند باتیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ملک محمد صامی فرماتے ہیں۔ "صدیقین آمدت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دو کسب سبب ترک سلطنت برجمیع اولیاء اللہ فضیلت دارند حضرت سلطان القارئین ابراہیم بن ادہم و سلطان سید اشرف جہانگیر

۱۔ مراقبات ۱۵۱۱ نواد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ اذکار ابرار لاہور ۱۳۵

۳۔ اخبار الاختیار مصنف شیخ عبد الحق محدث دہلوی

سمنان کچھو چھوئی قدس سرہ الترمذی

حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، ۷۰ ہجری میں سمنان (ایران) میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم تھا وہ سمنان کے سلطان (بادشاہ) تھے جو ایک کامل ولی اللہ تھے۔ ۱۰ سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کیا۔ ۱۴ سال کی عمر شریفیت میں تمام علوم دینی میں فارغ التحصیل ہوئے۔ ۱۷ سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ ۲۰ سال کی عمر میں ۲۰ سال تک حکومت کی۔ ۲۳ سال کی عمر میں ۲۳ سال تک حکومت کی۔ ۲۶ سال کی عمر میں ۲۶ سال تک حکومت کی۔ ۲۹ سال کی عمر میں ۲۹ سال تک حکومت کی۔ ۳۲ سال کی عمر میں ۳۲ سال تک حکومت کی۔ ۳۵ سال کی عمر میں ۳۵ سال تک حکومت کی۔ ۳۸ سال کی عمر میں ۳۸ سال تک حکومت کی۔ ۴۱ سال کی عمر میں ۴۱ سال تک حکومت کی۔ ۴۴ سال کی عمر میں ۴۴ سال تک حکومت کی۔ ۴۷ سال کی عمر میں ۴۷ سال تک حکومت کی۔ ۵۰ سال کی عمر میں ۵۰ سال تک حکومت کی۔ ۵۳ سال کی عمر میں ۵۳ سال تک حکومت کی۔ ۵۶ سال کی عمر میں ۵۶ سال تک حکومت کی۔ ۵۹ سال کی عمر میں ۵۹ سال تک حکومت کی۔ ۶۲ سال کی عمر میں ۶۲ سال تک حکومت کی۔ ۶۵ سال کی عمر میں ۶۵ سال تک حکومت کی۔ ۶۸ سال کی عمر میں ۶۸ سال تک حکومت کی۔ ۷۱ سال کی عمر میں ۷۱ سال تک حکومت کی۔ ۷۴ سال کی عمر میں ۷۴ سال تک حکومت کی۔ ۷۷ سال کی عمر میں ۷۷ سال تک حکومت کی۔ ۸۰ سال کی عمر میں ۸۰ سال تک حکومت کی۔ ۸۳ سال کی عمر میں ۸۳ سال تک حکومت کی۔ ۸۶ سال کی عمر میں ۸۶ سال تک حکومت کی۔ ۸۹ سال کی عمر میں ۸۹ سال تک حکومت کی۔ ۹۲ سال کی عمر میں ۹۲ سال تک حکومت کی۔ ۹۵ سال کی عمر میں ۹۵ سال تک حکومت کی۔ ۹۸ سال کی عمر میں ۹۸ سال تک حکومت کی۔ ۱۰۱ سال کی عمر میں ۱۰۱ سال تک حکومت کی۔ ۱۰۴ سال کی عمر میں ۱۰۴ سال تک حکومت کی۔ ۱۰۷ سال کی عمر میں ۱۰۷ سال تک حکومت کی۔ ۱۱۰ سال کی عمر میں ۱۱۰ سال تک حکومت کی۔ ۱۱۳ سال کی عمر میں ۱۱۳ سال تک حکومت کی۔ ۱۱۶ سال کی عمر میں ۱۱۶ سال تک حکومت کی۔ ۱۱۹ سال کی عمر میں ۱۱۹ سال تک حکومت کی۔ ۱۲۲ سال کی عمر میں ۱۲۲ سال تک حکومت کی۔ ۱۲۵ سال کی عمر میں ۱۲۵ سال تک حکومت کی۔ ۱۲۸ سال کی عمر میں ۱۲۸ سال تک حکومت کی۔ ۱۳۱ سال کی عمر میں ۱۳۱ سال تک حکومت کی۔ ۱۳۴ سال کی عمر میں ۱۳۴ سال تک حکومت کی۔ ۱۳۷ سال کی عمر میں ۱۳۷ سال تک حکومت کی۔ ۱۴۰ سال کی عمر میں ۱۴۰ سال تک حکومت کی۔ ۱۴۳ سال کی عمر میں ۱۴۳ سال تک حکومت کی۔ ۱۴۶ سال کی عمر میں ۱۴۶ سال تک حکومت کی۔ ۱۴۹ سال کی عمر میں ۱۴۹ سال تک حکومت کی۔ ۱۵۲ سال کی عمر میں ۱۵۲ سال تک حکومت کی۔ ۱۵۵ سال کی عمر میں ۱۵۵ سال تک حکومت کی۔ ۱۵۸ سال کی عمر میں ۱۵۸ سال تک حکومت کی۔ ۱۶۱ سال کی عمر میں ۱۶۱ سال تک حکومت کی۔ ۱۶۴ سال کی عمر میں ۱۶۴ سال تک حکومت کی۔ ۱۶۷ سال کی عمر میں ۱۶۷ سال تک حکومت کی۔ ۱۷۰ سال کی عمر میں ۱۷۰ سال تک حکومت کی۔ ۱۷۳ سال کی عمر میں ۱۷۳ سال تک حکومت کی۔ ۱۷۶ سال کی عمر میں ۱۷۶ سال تک حکومت کی۔ ۱۷۹ سال کی عمر میں ۱۷۹ سال تک حکومت کی۔ ۱۸۲ سال کی عمر میں ۱۸۲ سال تک حکومت کی۔ ۱۸۵ سال کی عمر میں ۱۸۵ سال تک حکومت کی۔ ۱۸۸ سال کی عمر میں ۱۸۸ سال تک حکومت کی۔ ۱۹۱ سال کی عمر میں ۱۹۱ سال تک حکومت کی۔ ۱۹۴ سال کی عمر میں ۱۹۴ سال تک حکومت کی۔ ۱۹۷ سال کی عمر میں ۱۹۷ سال تک حکومت کی۔ ۲۰۰ سال کی عمر میں ۲۰۰ سال تک حکومت کی۔

۱۱۰۰ھ میں جو کہ قدس کو راہی ہوئے۔
علمی خدمات حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ علیہ ایک متبحر عالم تھے۔ آپ کی علمی خدمات کچھ موجود ہیں اور کچھ نامید مرتبہ الخوانسار جلد ثالث میں ۲۹ کتابوں کا نام آپ کے نام کے ساتھ ذکر ہے۔ بیحد کتابوں کے لئے تفصیل کے لئے لطائف استرانی کا مطالعہ فرمیں۔

نام مند جبہ ذیل ہیں۔ تفسیر قرآن فصیح الحکم کی شرح خود حضرت کا ایک دیوان اشرف الکلامہ امراء المحتانی کنز الدقائق تصانیف میں مختصر رسائل بھی ہیں اور ضخیم کتابیں بھی۔

مکتوبات گرامی، مکتوبات کا مجموعہ جناب سید شاہ فرید الدین اشرف متولی و سجادہ نشین کے ذاتی ذخیرہ میں موجود ہے۔ پورا مجموعہ مقدّمات و مکتوبات کے مرتب کے گراں قدر اضافات پر مشتمل ہے۔ مقدمہ سے یہ مکتوبات لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے دو اصحاب کے ہاتھوں پر لکھی گئی ہیں۔ اس کے جامع اول حضرت نظامی مینوی جو حضرت کے مرید و خلیفہ تھے اور جامع ثانی حضرت حاجی عبدالرزاق نوراحین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے جو قطعہ تاریخ کہا گیا ہے اس کا آخری شعر اس طرح ہے۔

چوں مکتوبات ثانی بہت ترکیب

پے تاریخ مکتوبات آمد

مخدوم صاحب کے خطوط کا مطالعہ تصوف اور اعلیٰ مع اللہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ آپس ہونی کے قلب کو سوز و گداز بھی ملتا ہے اور تحقیق و تدقیق کی جانتی بھی۔

لطائف استرانی بہ لطائف استرانی حضرت مخدوم صاحب کے

۱۱۰۰ھ میں جو کہ قدس کو راہی ہوئے۔

ارشادات ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ جو آپ کے درید خاص حضرت شیخ نظام بخینی نے نویں صدی ہجری میں قلم بند کئے تھے وہ اس طرح کے جو ارشادات آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے تھے وہ اس کو لکھ لیتے تھے بعد میں اس کی نظر ثانی حضرت مخدوم صاحب خود فرماتے تھے۔ یہ تصنیف طبقہ مہنویا میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اور فارسی اشعار پر مدد دہی کا بہترین نمونہ ہے۔

حضرت اشرف الدین اشرفی نے اپنی کتاب "مختصر جامع" میں جو کہ ایک جامع رسالہ ہے اور ادب کے نامور اور علامہ ہیں آپ نے اس کتاب میں "اصطلاح و تصوف" کو شمالی ہند کا اردو ادب کا سب سے پہلا رسالہ تسلیم کیا ہے۔

اس کے علاوہ آپ نے فارسی میں اشعار بھی کہے ہیں۔ آپ کی وفات ۲۸ محرم الحرام ۱۰۰۰ھ میں ہوئی۔ آپ کا مقدم مبارک آج بھی حصول فیض و برکت کا سرچشمہ ہے۔ تمام بلائیں آسبھی امرین اور جادو سحر کے دفعیہ کیلئے اکسیر ہے۔

سید شاہ فخر الدین اشرف

اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ مخدوم سید اشرف جہانگیر
سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حاجی عبد الرزاق نور العین

اشرف الدقائق حضرت نور العین کا شمار اکابرین روزگار میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت مخدوم سمنانی کے فرزند مثنوی اور قرہ بن بھانجے تھے۔ آپ نے حضرت مخدوم سمنانی کے رشد و ہدایت کے چراغ کی کو تیز کی اور اسکی روشنی سے سلسلے عالم کو منور کر دیا۔ ان کی روشنی کی ہوئی وقت دہلی سے آج بھی صبا

آپ حضرت مخدوم سمنانی کی خالہ زاد بہن کے فرزند تھے۔ پدر بزرگوار کا نام سید عبد الغفور گیلانی تھا جو خالوادہ خوت پاک سے تعلق رکھتے تھے حضرت مخدوم صاحب جب عراق تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات عبد الغفور گیلانی سے ہوئی اور وہیں آپ نے حضرت نور العین کو اپنی فرزندگی میں قبول کر لیا اور اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے۔ آپ کی نندیم تربیت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ حضرت سید اشرف فرماتے ہیں میرے اور اس کے درمیان بوقربت ہے اسکی شرح مجال ہے۔ آپ حضرت نور العین سے بڑی محبت اور الفت فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں۔

چہ نور دیدہ لیم از نور دیدہ بکہ نور دیدہ باشد
نور دیدہ میں لے ابھی آنکہوں سے کیا نور دیکھا ہے جو میری آنکھوں
کا لوزن گیا۔

حضرت نور العین بارہ سال کی عمر میں حضرت مخدوم کی بارگاہ میں آئے آپ کے روحانی فیوض و برکات سے اپنے قلب کو اسی سٹھ سال تک غلبی کیا آپ نے حضرت مخدوم کے اقوال و افکار و روحانی تصرفات کے آب حیاں سے اپنے قلب کی آبیاری کی۔ ایک جگہ حضرت مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تجھ پر آماد کیا اور تجھ سے کوئی خیر و ریح نہیں گئی اور جب حضرت مخدوم صاحب سفرِ اُخترت کی طرف کوچ فرماتے گئے تو آپ کو اپنا جگہ فرماتے ہیں کہ "اگر خیرِ زمانہ اور اللہ میں کمال رہیں گے تو میں حیات و ممات میں انکی مدد کروں گا۔"

حضرت مخدوم صاحب کے بعد حضرت نور العین کی اولاد ازل سے آپ کا خاندان روشن ہے۔ حضرت نور العین کے پانچ فرزند ہوئے جو سعادت و بزرگی میں یگانہ روزگار تھے جو آگے چلکر نور انیسیت میں مثل حیرانہ اور لطافت میں مثل قنیل بنے۔ سجادگی کا سلسلہ حضرت شاد میں سے چلا جو آپ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ چنانچہ آج بھی سجدہ سجادگی پر آپ کی اولاد متمکن ہے اور اس وقت حضرت مولانا سید شاہ خرم الدین اشرف انیسویں سجادہ نشین ہیں جنکی برکت سے ایک جہان نیصیاب ہو رہا ہے۔

از:-

سید مظہر الدین اشرف ایم اے عیسیٰ

مختصر سوانح قدوة السالکین حضرت مولانا سید عبدالحی اشرف رحمہ اللہ علیہ

سلسلہ اشرفیہ کی شاخیں یوں تو متعدد صوبوں اور شہروں میں موجود ہیں لیکن مرکزی حیثیت و تقصبات کو حاصل ہے بسا کھاری اور درگاہ رسول پورا جو برہنہ مالک میں کچھ عرصہ شریفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان تقصبات کو مختصر سید اشرف جہانگیر سمجھنا تو اس کے قدم مبارک سے افتخار حاصل ہونے کے ساتھ ہی انکے خاندان کے دیوانہ علماء و صوفیاء پیرانہ طریقت فقہاء کے ممتاز طبقہ کا مولد و مسکن ہونے کی وجہ سے تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔

بصورت تہذیب و تعالیٰ کی بارگاہ و علوم و فنون کا تذکرہ، لڑکے باطنی بزرگوں کی فہرست ہو یا مشاہیر و دروگاہ کے صحیفے، ہر جگہ اس خاندان کے لوگوں نے اپنے انبث و نقوش رقم کئے ہیں۔ خاندان اشرفیہ کے افراد کالیسی لغت حضرت حاجی عبدالرزاق نور العین سے ہے جو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر کے خالاقی کھانچے اور فرزند معنوی تھے جن کا شہرہ نسبتاً منصور و غوث الاعلم فی الدین عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے۔

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر نے دورانِ سفر خزانِ آب کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا تھا۔ انکی تربیت میں کوئی دقیقہ فرود گذشت نہیں کیا۔ آپ کو نور العین کا خطاب بھی عطا فرمایا حضرت حاجی عبدالرزاق نور العین معوض حق کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے حضرت مخدوم سمجھنا کی تربیت میں ان کے علوم مرتبت کی دلیل ہے۔

حضرت نور العین کے پانچ صاحبزادے ہوئے جو عظمت و بزرگی کے اعلیٰ ذیور سے آراستہ تھے حضرت کے دوسرے صاحبزادے سید شاہ حسین نال کو سجادگی کا منصب اور منصبِ تبرک کی دیکھ مجال سے نوازا گیا۔ میراۃ الاسراء کے مصنف شیخ عبدالرحمن تیشی رقم طراز ہیں۔

"حضرت سید عبدالرزاق کا ذنات کے بعد میر سید حسین اپنے والد کے قائم مقام ہوئے چنانچہ انہیں کے فرزند آستانہ مبارک کے سجادہ ہیں؟"

دوسری جگہ لکھتے ہیں: "میر سید عین کی اولاد میں اکثر صاحبان کمال ظاہر ہوئے، اسکی تفصیل کہاں تک لکھوں؟"

بقول تفسیر شرح علیہ الرحمہ حضرت شیخ مصنف مرآة الاسرار و شہادہ اللہ علیہ بنی مطہری مصنف تاریخ خرد خواہ کے "میر سید عین کی اولاد میں صاحب کمال لوگ گزرتے ہیں۔"

فضائل و کمالات کی ایسی ہی جامع شخصیات میں حضرت مولانا سید شاہ علی محمد اشرف سجادہ شہین جتہ اشرف علیہ بھی تھے جو ہر شاہ کمال، بی نظیر لغت، جامع تشریحات و طریقت اور صفت تفسیر اہلئے قدیم کی روایات و عظمت کا سینہ تار ہوتے تھے۔ شہادہ شامی سے بھی آپ کو کلام تھا۔ جو شوق تخلص کرتے تھے۔ مضاف المہارک کی ایک نثر حسنہ اور امام احمد رضا علیہ السلام کی کلامی کتب پر بھی ہوش نصیبی کا اذن بھی جو ہر اوقات عام خواب میں

شہادہ شامی کا اذن بھی جو ہر اوقات عام خواب میں شہادہ شامی کی لوازمیوں میں شریک رہا۔ صیام تھا۔ ۱۱۹۳ھ

آپ حضرت مولانا وجہ الدین اشرف سجادہ شہین درگاہ تفسیر کلام خدا کے فرزند ارجمند تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اس کے بعد عربی ادب کی تعلیم لینے کا پورا ارشاد لینے پھر کچھ دن زرنگی محل کے مدرسے میں مزید تعلیم و تفسیر کی تعلیم و بی بی بی بی بی کا مطالعہ کیا اور مدرسے حاصل کی وہاں سے آنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ دیکر تصوف و سلوک کی تعلیم حاصل کی۔ والد کے ساتھ توجہ و عرصہ رہ کر حکمت کی مزید تعلیم کیلئے حیدرآباد تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ مطب میں وقت دینے لگے۔ والد کے پیش نظر جو علمی و مذہبی کام تھے ان میں حصہ لینے لگے اور اپنی تکمیل کی۔

۱۱۹۳ھ میں اپنے والد ماجد اور پیر و مرشد حضرت مولانا وجہ الدین اشرف قدس سرہ کی وفات بعد کا برین و شائع کی موجودگی میں منصب سجادگی پر متمکن ہوئے اور وسیع کلمہ میں منصب پر فائز رہے اور اپنے روحانی فیوض و برکات سے مریدین و تلامذہ کو اوتارے۔ ۱۱۹۳ھ میں بمقام بنارس میں ہزاروں لوگوں کو گوروں کو روئے تھیوڑ کر مالک تصبی سے حاصل۔ حضرت صاحب شاہ کی لکھا ساری لایا گیا۔ آپ حضور کرم سمانی کے دفتر برائو کے سامنے امام فرمایا

حضرت مولانا کی شخصیت بڑی جامع تھی، ان کے انکار و دنیا لات نہایت بلند تھے۔ ان کے کاموں کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ طبیعتاً نہایت خاموش، گوشہ نشین، قانع اور شہرت و کمز سے بے نیاز تھے۔ تصنیفی قابلیت میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیں اور کئی تراجم بھی کئے جن میں ترجمہ طالع استر فی (ہ طالع) ترجمہ مکتوبات اشرف (ہ مکتوب) و ہنائل زائرین، ترجمہ مکتوبات امام غزالی، عملیات اشرفی اور اولاد اشرفی وغیرہ شامل ہیں۔ علم حکمت سے تعلق آپ کے بہت مضامین شہوٹری رسالہ "الحکیم ہو کر میں شائع ہوئے ہیں۔ آپ کی نعتیہ شاعری عشق رسول کا کامل نمونہ ہے۔ اس میں سوز و گداز، عشق اور تڑپ ہے حضرت مولانا کو اس نے قربت و کھلم سے شاعرانہ غلوت و معلوت سے واقف کیا ہے۔

دوسرا سید عبدالحی اشرف سیسی باک طینت اور زرنگ ہستی تھی، جس نے اپنے اطلاق حسنہ اعمال صالح اور پرکشش اور جاذب شخصیت سے ہر کلمتہ فکر کے لوگوں کو اپنا گرد و پیش بنا رکھا۔ کسی نے کہا ہے کہ جس کی تعریف باپ نہ لے کر نہیں دیکھ سکتے اور جس کی تعریف گھر والے کر کے وہ عظیم تر ہے۔ حضرت مولانا امام الدین قادری صاحب جامع مسجد لکھنؤ ہی نہ لگتے ہیں۔

"حضرت کی ذات گرامی ایسے صوفی باصفا کی تھی جو متصف بصفات کریمہ تھی۔ آپ فصاحت و کلام صبر و استغناء کے پیکر تھے۔ وہ ایک قلب درد آستانہ رکھتے تھے۔ عشق رسول ان کا مقصد زندگی تھا۔ حضرت مولانا کا عہد مبارک ختم ہو چکا ہے، انوار سلوک و عرفان کا سلسلہ آپ کے صاحبزادے سید شاہ محمد الدین اشرف بنام دوشین درگاہ کچھ تشریف کی ذات با برکات سے قائم ہے۔ اللہ ان کے فیوض و برکات کو عام کرے اور حضرت مولانا کے نقیض قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین دعا تو موعی الاما شد

از سید شاہ مظہر الدین اشرف ایم اے علیک ۳۱ جنوری ۱۹۹۴ء
 صواعقت، مرآة الاسرار، از عمید الرحمن شیخ اشرف علیہ الرحمہ، شہادہ اللہ علیہ بنی مطہری
 اشرفی اشرفی نعتیہ شاعری، اشرفی اشرفی طبعہ قرنی کوازمینہ، اشرفی اشرفی صاحبزادے
 اور نعت انوارنا عبدالحی اشرف جن پر تفسیر مولانا امام الدین قادری نے لکھی ہے۔

ہدایات برائے عامل

عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل عامل کیلئے مندرجہ ذیل ضوابط کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ایجد سے واقفیت ضروری ہے تاکہ اسم، آیت اور عبارات مطلوبہ سے اعداد نکال سکیں۔

۲۔ تجزیہ کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے کہ تقوید کو لکھا جائے۔

۳۔ تجزیہ دیکھنے کی صلاحیت ہو اور متعدد محسن ساعات سے واقفیت ہو۔

شرائط جو اعمال کیلئے ضروری ہیں

۱۔ صفائی ظاہر و باطن (۲) طہارت کاملہ (۳) صدق نیت (۴) صدق و خیر آ

(۵) نفور صحبت اشراک و گمراہی اختلاط اغیار و امراء (۶) کثرت استعمال، تیار

خوشبودار و عطریات (۷) ترک استعمال بوسے بد مشق، پیاز، لہسن و فوف

(۸) خورد و نوش جو دار بوقت عمل شل، لوبان، ہود، عنبر، مشک (۹) خلوت و تنہائی

(۱۰) خلوص قلب (۱۱) مشور و خضوع (۱۲) مطلق مطلوب (۱۳) توجہ تمام

(۱۴) اکل حلال (۱۵) صدق مقال (۱۶) احتراز و استیاض امور غیر مشروع سے

(۱۷) قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام کی طاعت (۱۸) قرأت و درود شریف اول و آخر دعا کے حساب عشر مقدار اعداد و عبارات عدداط کے

(۱۹) آیات و دعاؤ کے معنی پر عبور، خانہ پڑھی اوفاق حرب، اصول اور سبب

برابر یکساں رہیں (۲۰) کثرت قرأت، استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ، بلائید

وقت و تعداد کے (۲۱) اگر اول و آخر میں تین روزہ نہ رکھ سکے تو ایک ہی روز

ادل و آخر رکھے (۲۲) دعاؤ کے اوقات کا زیادہ تر خیال رہے، خاص کر تشریف

اور سحر کو، بھوتوں سے نہ بھانپنے دے (۲۳) جن اعمال میں شرائط بسیار کان اور سنا

کی قید نہیں ہے انہیں مندر رہے کہ ابتدا عمل کی عروج ماہ شب پچھتہ یا روز پچھتہ

سب سے اول اربع عناصر کا عمل کر لیا جائے اور اس کا طرہ یہ ہے کہ تقوید کو

موافق تعداد اعداد اس کے بموجب شرائط کے لکھ کر اس کے چار حصے کرے

اول حصہ کو آگ میں جلا دے دوسرے حصہ کو ندی یا نہر کے کنارے دفن کرنے

تیسرے حصہ کو آبِ رواں میں چھوڑ دے چوتھے حصہ کو اشجار شرم دار شیریں

آویزاں کر دے، پھر اس کے بعد دو تقوید اور کلمے ایک اپنے پاس اور دوسرا

سکینہ میں رکھے۔ یہ عمل بروز پچھتہ عروج ماہ میں ہونا چاہئے۔

لوازمات نقوش

نقوش کے لوازمات میں مسلم سیما ہی اور تجورات اس کے ساتھ کتابت

کی شرائط اور آداب کا جاننا نہایت ضروری ہے۔

۱۔ قلم: قلم کو حلال ہدیہ سے خریدنا چاہئے۔ یہ روشنی کرنی چاہئے کہ ہر

عمل کرنے کے لیے نیا قلم چھیلا جائے۔ یا نیا قلم لیا جائے جس سے پہلے کچھ نہ لکھا گیا ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سدا اعمال کیلئے الگ قلم رکھتے ہیں اور جنس اعمال کیلئے الگ۔

قلم کو تراشنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخرتین مرتبہ درود شریف پڑھیں بعد ازاں پانچ مرتبہ اقراء وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھیں اور قلم کو تراشیں۔ اگر قلم اعمال خیر اور حق کیلئے ہے تو قلم کا سرخ اجڑا کر انگریزوں کے پھیلے اور قلم زمین پر نہ رکھیں جب تک کفن کا رخ دوسری طرف کر کے پھیلیں اور قلم زمین پر نہ رکھیں جب تک کفن تمام نہ ہو جائے جس وقت قلم بنائیں تو زبان سے کہیں یا مستعدان اقصیٰ حاجتی اور جب قلم بن جائے تو اولاً ابہام کی انگلی کے نانن یا کف دست پر ذیل کا کلمہ لکھیں۔

اگر قمر برج آتش میں ہو تو لکھیں
اھطو عشذ
اگر قمر برج بادی میں ہو تو لکھیں
یرمن کیتض
اگر قمر برج آبی میں ہو تو لکھیں
خرومن فشقظ
اگر قمر برج خاکی میں ہو تو لکھیں
وھل برحیتع

حقیقت یہ ہے کہ اس قلم سے جو کچھ لکھا جائے گا اس کا نتیجہ لازماً ظاہر ہوگا اور جو بات ہوگی وہ تیزی سے قبول ہوگی

۲۔ سیاہی - سیاہی کے لئے یاد رکھئے کہ دو قسم کی سیاہی تعویذات

کے لکھنے میں کام آتی ہے۔ ایک سرخ دوسری سیاہ۔ سرخ رنگ زعفران سے حاصل کرتے ہیں اعمال خیر کیلئے مفید ہے۔ اعمال غضب کیلئے کالی رشتائی کا استعمال مناسب ہے۔

۳۔ کاغذ - کاغذ رنگ کے لحاظ سے انتخاب کیا جائے اور یہ رنگ کو اکب کے متعلق رنگوں سے لئے جاتے ہیں۔ اعمال خیر کے لئے سفید کاغذ اور اعمال شر کیلئے سبز کاغذ اور اعمال غضب کیلئے سرخ نیلا اور سفید ہونا ہے۔

۴۔ کپڑا - نقوش جس کپڑے میں لپیٹا جائے وہ کو اکب کے موافق رنگ کا ہونا ہے اور اگر طالب مطلوب یا بصورت عداوت طرفین کے پہنے ہوئے کپڑے میں لپیٹا جائے تو متاثر ہے۔

۵۔ بخور - بخور اس ستارے کا جلا میں جو عمل کے موافق ہو جس ساعت میں کام کر رہے ہیں۔ بخور سے روحانیاں متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ماحول اس لوح یا نقش سے سازگار ہو جاتا ہے۔ بخور یہ ہیں :-

زحل کا	سیر	-	زہرہ کا	زعفران
مشتری کا	حب الفار	-	عطارد کا	مصطلی
شمس کا	عود	-	قمر کا	لوبان

نقش کے اقسام اور اسکی اہمیت

نقش تعویذات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ شیخ نفاکینی مصنف لطائف اشرفی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر دعوت تکیر تعویذات میں صرف کی اور سب کا تجربہ کرنے کے بعد پھر حضرت سید اشرف جہانگیر ہمنانی سے سیکھا۔ ایک رسالہ میں تحریر کیا جس کا نام کنز الاسرار ہے۔ بعض مشرخی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ایک کفر ہے اور امام غزالی نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن شیخ ابوالدین ابن عربی اور امام عراقی وغیرہ کو ان میں بہت دلچسپی تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے حروف کے اثرات مجدیہ منکشف کئے ہیں جس سے مجھ کو قسم قسم کے علوم حاصل ہو گئے۔

حضرت قدوة الکبریٰ سید اشرف جہانگیر اپنے اصحاب کو ان اعمال کی بہت کم اجازت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ارباب دل کو اس سے بہتر کام درپیش ہیں جس طالب نے دریاے توحید میں غوطہ لگایا۔ اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت۔ البتہ ان اعمال کی حاجت اس شخص کو ہے جو مقتدا بننا اور جمعیت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اگے وقتوں کے بزرگ اسمائے الہی کی زکوٰۃ دوسری مصلحتوں سے دیتے تھے لیکن اس زمانہ کے لوگوں نے ان اسماء کو جمعیت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور یہ بہت برا کام ہے۔ بہر حال درویش ان اسماء سے خالی نہیں اور جوہری کی دکان پر ہر قسم کے جوہر موجود ہوتے ہیں۔

علم اللوح اعداد اثرات اعداد میں خزانے پوشیدہ ہیں۔ اعداد و حروف کا علم بہت قدیم ہے ان میں اتنی خاصیتیں ہیں کہ بیان نہیں کی جاسکتیں صرف خاصانِ خدا ہی ان قوتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں چہرہ دنیا کا تو ذکر ہی کیا وہ پس پردہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے البتہ اس میدان میں قدم رکھنے والے اور محنت کرنے والے حضرات جب تحریر کریں گے تو وہ اپنی آنکھوں سے اس کے فوائد مرتب ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ طالب علم کو بہت کم ہے۔ اسلئے اسلام نے اپنے بندوں سے استعانت طلبی کے دوران صبر و صلوٰۃ بتائے ہیں۔ صبر و صلوٰۃ پر مقدم رکھا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں سے مزید وعدہ فرمایا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں لیکن انسان بے چین رہتا ہے۔ ایسے میں اس کو اعمال تعویذات دی جاتی ہیں تاکہ اس کو سکون حاصل ہو اور یہ ایک احسن کام ہے اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اور ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔

نقش لکھنے والا تازہ پنچکا نہ کا پابند ہو، مشروعیت و طہریت کے اصول کی پیروی کرتا ہو، عقیدہ درست ہو، جس سے نقش کی تاثیر دوگنا ہو جاتی ہے۔

نقش کے اقسام :- نقش دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ۱۔ الطبعی ۲۔ وضعی

- ۱- طبعی نقش وہ ہوتا ہے جس میں اعداد طبعی ہوں۔ ایک سے تشریح ہو کر کل خالوں کی تعداد کا عدد آخر ہو۔ مثلاً مثلث طبعی وہ ہوگی جس میں ایک سے نو ہندسے ہوں اور میزان ہر طرف سے اسکی ہندسہ ہوں۔
- ۲- وضعی نقش وہ ہوتا ہے جو کسی اسم یا آیت یا عریکیت کے اعداد کی جمع لیکر مقصد کے مطابق نقش بھرا جائے۔ اس میں تعداد طبعی سے زیادہ ہوں گی۔

نقش طبعی

۶	۵	۴
۳	۹	۲

۱۴	۱۵	۱۷
۱۲	۱۹	۱۳

تعویذات کے اقسام :- تعویذات چار قسم کی ہوتی ہیں

۱- آتشی ۲- بادی ۳- خاکی ۴- آبی

۱- آتشی :- مثلث کی سمت مشرقی ہے، مزاج آتشی ہے

یہ تعویذ ہر اے ہلاکت، بیمار کرنا،

خوابی وقت یا ہی اور تفرقہ میں کام

دیتی ہے اسلئے جب بھی ایسا مقصد

ہو آتشی سے نقش پُر کیا جاتا ہے

اور منہ مشرق کی طرف رکھا جاتا ہے

مثلاً یہ تعویذ :-

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

- ۳- بادی - مثلث کی سمت مغرب سے تعلق رکھتی ہے۔ مزاج اس کا بادی ہے۔ ہر اے فتوحات حاجات، ترقی درجات وغیرہ کے لئے یہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لکھتے وقت منہ مغرب کی سمت کیا جاتا ہے۔

بادی

۶	۷	۲
۱	۵	۹
۸	۳	۴

- ۳- خاکی - خاکی کی سمت جنوب سے متعلق ہے۔ مزاج اس کا خاکی

سختی، تیزی، شجاعت اور دور کرنا کسی امر کی قاضی حصول کیلئے اسے

بہتر کرتے ہیں اور منہ جنوب کی طرف

رکھتے ہیں۔

خاکی

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

- ۴- آبی - آبی مثلث شمال سے متعلق ہے۔ مزاج اس کا آبی

ہے۔ ہر اے محبت، شفا، امراض، زردی، قضاے حاجات

کے لئے اس کو بہتر کرتے ہیں۔ لکھتے

وقت منہ شمال کی طرف

ہونا چاہئے۔

آبی

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

احتیاط :- یہ لازم ہے کہ ایسا دن انتخاب کیا جائے کہ رجال الغیب سے نہ ٹریں حکما رتے اسے ایک مثلث کی شکل دیکر یہ لحاظ عناصر خالوں کو بیان کیا ہے۔

	تفریق	
	آستی	
توجا		بادی
	خاکی	
	مخود	

شاکھ کا طریقہ استعمال

۱۔ اگر نقش خاکی ہے۔ کوئی شخص اس کا استعمال کرنا چاہے تو پہلے اسکی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی نیک مقصد کیلئے نقش کے اعداد پاک زمین پر یا پاک بیت پر انگلی سے لکھیں اور مٹائیں۔ ہر روز ایسا ہی کریں۔ یا کاغذ پر لکھ کر جاری پانی میں ڈالیں۔ نقش خاکی کو پانی میں ڈالنے پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

۲۔ اگر نقش آبی ہے اور کوئی شخص چاہے کہ اسکی زکوٰۃ کرے یا کسی نیک کام کیلئے عمل کرے تو نقش لکھ کر آب رواں میں ڈالے۔ اگر جب کیلئے ہو تو بلا تا چاہئے یا اس نقش کو پانی کے برتن کے نیچے رکھے۔

۳۔ اگر نقش بادی ہو اور عمل عداوت کیلئے ہو خارا دار درخت یا کھڑے پھل کے درخت مثل نیم کے اور پر لگاتے ہیں۔ اگر جب کے لئے ہو تو میوہ یا کسی میٹھے پھل کے درخت پر لگاتے ہیں تاکہ

ہو اسے ہٹا رہے۔ اگر عمل سرگردانی دشمن کیلئے ہے تو نقش کو صحرا میں کسی بلند جگہ پر جا کر اڑاتے ہیں۔

۴۔ اگر نقش آستی ہو اور اگر کوئی حاجت درکار ہو تو اسے آگ میں ڈالتے ہیں۔


نقش بھرنے کے اصول

۱۔ نقش بھرنے سے پہلے نہا کر کپڑے بدل لیں۔ درمیان نماز اشراق نہ لیں۔ کسی انسان کا سایہ نہ پڑے۔ کسی سے بات چیت کریں اور لوہا نہ لگیں۔ زمین پاک ہو قبلہ رخ دروازوں پر بیٹھ کر بھریں۔ اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر نقش پر دم کر دیں۔ اس کو باندھ لیں۔ نقش کو مشک و زعفران اور گلاب کی روشنائی سے بھریں۔ نقش صرف نو چندی جعرات یا اس کی صبح کو جمعہ کے دن لکھ سکتے ہیں۔ کسی دوسرے دن نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تعویذ مکمل کر کے ۸ ماہہ چاندی کی تلوں ہو اگر اسیں بھردی اور اپنے داہنے بازو پر باندھیں اس میں کثرت سے عطر لگا یا کریں۔

یوہیز :- تعویذ باندھ سے ہوئے عورت کی سواری (زہد خانہ) میں نہ جائیں اور نہ مردہ کو بچھوئیں اور نہ عورت کے ساتھ خلوت۔ ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔

۱۳۔ مثلث میں ۱۳ سے طرح دیکر مثلث سے بھرنا چاہئے۔ اگر ایک ہے

احتیاط :- یہ لازم ہے کہ ایسا دن منتخب کیا جائے کہ رجالِ لغیب سے نہ پڑنا سکھائے اسے ایک مثلث کی شکل دیکر بہ لحاظ عناصر خالص کو بیان کیا ہے۔



نقوش کا طریقہ استعمال

۱۔ اگر نقشِ خاک ہے۔ کوئی شخص اس کا استعمال کرتا چاہے تو پہلے اسکی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی نیک مقصد کیلئے نقش کے امداد یا زمین پر یا پاک بیت پر انگلی سے لکھیں اور نماز میں ہر روز ایسا ہی کریں۔ یا کاغذ پر لکھ کر جاری پانی میں ڈالیں۔ نقشِ خاک کو پاؤں میں ڈالنے پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

۲۔ اگر نقشِ آبی ہے اور کوئی شخص چاہے کہ اسکی زکوٰۃ کرے یا کسی نیک کام کیلئے عمل کرے تو نقش لکھ کر آبِ رواں میں ڈالے۔ اگر جب کیسے ہو تو پلانا چاہئے یا اس نقش کو پانی کے برتن کے نیچے رکھے۔

۳۔ اگر نقشِ ہادی جو اور عملِ عداوت کیلئے ہر عار دار و رخت یا گروہ پھیل کے درخت مثلاً نیم کے اوپر لٹکتے ہیں۔ اگر تیب کے لئے جو ترمود یا کسی مہلے پھل کے درخت پر لٹکتے ہیں تاکہ

ہوا سے ہٹا رہے۔ اگر عمل برگر حالی دشمن کیلئے ہے تو نقش کو صحرا میں کسی بلند جگہ پر جا کر اڑاتے ہیں۔
 ۴۔ اگر نقشِ آتش ہو اور اگر کوئی حاجت و کار ہو تو اسے آگ میں ڈالتے ہیں۔

نقش بھرنے کے اصول

۱۔ نقش بھرنے سے پہلے تہا کر کپڑے بدل لیں۔ درمیان نماز اشرفی اور پختہ ہونے کے وقت کسی اور چیز سے کسی انسان کا سایہ نہ پڑے نہ کسی سے بات چیت کریں۔ اگر جن اور لوہاں سنگاؤں زمین پاک ہو قبلہ رخ دو زانو بیٹھ کر بھریں۔ اول جا آخر تین تین بار درود ستر تین پڑھ کر نقش پر دم کر دیں۔ اس کو بائض لیں۔ نقش کو منگ و زعفران اور گلاب کی روغنائی سے بھریں۔ نقش صرف نوچری جمادات یا اس کی سوز کو جو کھسے دن لکھ سکتے ہیں۔ کسی دوسرے دن نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تعویذ مکمل کر کے ۸ ماہہ چاندی کی خون جو آکر اس میں بھر دیں اور اپنے داہنے بازو پر باندھیں اس میں کثرت سے عطر لگایا کریں۔

پوہ یتر :- تعویذ بانڈ سے ہوشے عورت کی سبزی (زجر خانہ) میں نہ جائیں اور نہ مردہ کو بچھوئیں اور نہ عورت کے ساتھ خلوت۔ ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔

۲۔ مثلث میں ۱۲ سے طرح دیکر مثلث سے بھرنا چاہئے۔ اگر لیکے ہو

تو خانہ ۶ درہ ہو تو خانہ ۴ میں اضافہ کیا جائے۔

صریح میں تیس سے طرح دیکر بیٹے سے بھرنا چاہئے۔ اگر ایک کسر ہو تو خانہ ۱۳ میں۔ دو ہو تو خانہ ۶ میں اور تین ہو تو خانہ ۵ میں ایک ایک درہ اضافہ کریں۔

مخمس میں ساٹھ سے طرح دیکر جنس سے بھرنا چاہئے۔ ایک کسر ہو تو خانہ ۲۱۔ دو ہو تو خانہ ۱۶ میں تین ہو تو خانہ ۱۱ چار ہو تو قبضے خانہ میں اضافہ کر کے جنس اور کسب اور اضافہ کر کے کسر کے

دو اسپ پیادہ ۳ دو خرزین
از گاہ پیادہ ۳ دو اسپ است

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۴	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

۶	۱	۶
۷	۵	۴
۲	۹	۲

۱۳	۴	۱	۱۹	۲۵
۲۱	۳۰	۳	۸	۲
۵	۳	۲۴	۱۶	۱۵
۱۴	۱۱	۱۰	۳	۲۳
۵	۲۲	۱۸	۱۲	۶

حروف تہجی کے اعداد

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا کسی دماغے نشانی پر کرتے وقت اس کے اعداد جس باب بجز نکاسے جائیں۔ حروف تہجی کے تقویر کو دراصل ہر حرف پر لکھیں

۱	ب	۲	ج	۳	د	۴
۵	ح	۶	خ	۷	ط	۸
۹	ظ	۱۰	ع	۱۱	ف	۱۲
۱۳	ق	۱۴	ک	۱۵	گ	۱۶
۱۷	ل	۱۸	م	۱۹	ن	۲۰
۲۱	ی	۲۲	ر	۲۳	ز	۲۴
۲۵	س	۲۶	ش	۲۷	ص	۲۸
۲۹	ض	۳۰	ط	۳۱	ظ	۳۲
۳۳	ع	۳۴	غ	۳۵	ف	۳۶
۳۷	ق	۳۸	ک	۳۹	خ	۴۰
۴۱	ج	۴۲	د	۴۳	ذ	۴۴
۴۵	ر	۴۶	ز	۴۷	س	۴۸
۴۹	ش	۵۰	ص	۵۱	ض	۵۲
۵۳	ط	۵۴	ظ	۵۵	ع	۵۶
۵۷	ف	۵۸	ق	۵۹	ک	۶۰
۶۱	خ	۶۲	ج	۶۳	د	۶۴
۶۵	ذ	۶۶	ر	۶۷	ز	۶۸
۶۹	س	۷۰	ش	۷۱	ص	۷۲
۷۳	ض	۷۴	ط	۷۵	ظ	۷۶
۷۷	ع	۷۸	غ	۷۹	ف	۸۰
۸۱	ق	۸۲	ک	۸۳	خ	۸۴
۸۵	ج	۸۶	د	۸۷	ذ	۸۸
۸۹	ر	۹۰	ز	۹۱	س	۹۲
۹۳	ش	۹۴	ص	۹۵	ض	۹۶
۹۷	ط	۹۸	ظ	۹۹	ع	۱۰۰

شکل کی شکل کو اسم لطیف پڑھا ہے یا اس کا نشانی پر کرتے
ہے تو بسا پ بجز اعداد اس طرح جاننا چاہئے۔

۱۲۹ { ل ی ت
۹ ۱۰ ۳

۸	تشمینہ	۳۶۹	بیمیت اور وفار کیلئے	مکمل
۹	تفنی	۲۹۱	شکلاتے امراض کے لئے	بیمہ
۱۰	نعم اللہ علیہم	۸۱۳	سہاسات میں ڈرا اور پرائی کیلئے	آوار

عمل حل مشکلات

يَا فَتَاخَ الَّذِي فَتَحَ لَكَ الْاَوْتَابَ - اَلَيْسَ كَمَا
 ارادہ اور عمل سے بہتر ہے۔
 کیا یہ وہ ہیں جو تم پر آمادہ سے زیادہ اور تم پر اطمینان پر آمادہ سے زیادہ
 کے لئے وقت بعد نماز عشاء بہتر ہے۔

نقش برائے عمل مشکلات

۱۴۹	۱۸۳	۱۴۹	۱۴۹
۱۸۰	۱۴۵	۱۴۰	۸۲
۱۴۲	۱۴۴	۱۸۵	۱۴۱
۱۸۲	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۸

اس قدر کو مشا اور کھانے سے
 یا روشنائی سے کھ کر گھسے والا کھا
 یا یواری لکے یا جائے۔


شکل کاغذوں کے انجام کیلئے

جب کوئی مشکل دیکھیں آتے تو اس
 دعا کو تین روز موافق شرائط کے
 اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِحَمْدِكَ وَرَفِيقَتِكَ
 ۹۹ بار پڑھ کر لے۔
 فریمنق اقی بیکر و جلالہ و عدل محمد و صلوات و درصیہ آسمان
 و سخاوت و دعایہ علی و شہداء و شہیدین و ائمتہ و صلواتہما

و نہ سخاوتہ الحسن اور شہیدین و شہادۃ الحسن و غیرہ میں ان
 تقاضی حاجتی یا ناقصی المناجات

سہل مشکلات اور ہر طرح کے نماز کیلئے تعریف
 واسطے مشکلات آسان

ہونے حمدنا اللہ و نفعنا الوکیل کو چار سو چالیس دفعہ پڑھ کر
 ہر روز ہر مشکل اٹھائے آسان ہو جائے گی۔ منجد الہیہ جزو
 دوم اور اول کے دور کر کے اور مفید ہیں۔ اس جدول پر آمادہ شریف ہے۔



۴۶۹	۴۶۲	۴۸۱
۴۸۰	۴۴۸	۴۴۴
۴۴۵	۴۸۲	۴۴۴

نقش برائے عمل مشکلات


برائے عمل مشکلات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 يَا فَتَاخَ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِحَمْدِكَ وَرَفِيقَتِكَ
 بِطَلْسَمِ يَا فَتَاخَ دُرِّ - ہر روز کے لئے مجتہد ہے۔

حاصل شدہ کلمات | جنب کرتی مشک کور پیش ہوتو بین وینا زستانہ
 ذیل کی دوسرا گیارہ سو مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف :- کَلَامُ
 قَالِدٌ عَلَىٰ اَمْرِكَ ۔ ۲۔ يَا لَطِيفُ ۔ ۱۰۰ یوم تک پڑھیں۔ ۳۔ بِمَنْكُنْ
 يَا مَنْكُنْ پانچ سو ایک بار بعد نماز عشاء اول و آخر ایک ایک سو مرتبہ
 درود شریف پڑھ کر سب بدہ میں سر رکھ کر اللہ سے مشکل آسان ہونے
 کی دعا کریں۔

shaiikh abdul gaffar odisha


نقش برائے اعمال خراب و تسخیر



۱۷۶۶ء ۲۰۰۶ء
 - یہ یوم مہیولوب کر لائیں
 برگی کے اندر سے میں لکھ کر اپنے میں لکھ لیں۔

۱۷۶۶ء ۲۰۰۶ء ۷۱۹۶۹
 فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں
 طالب اپنے دل سے ہاڑ پر بانٹے۔

نقش برائے جنب طالب اپنے بازو پر بانٹے۔



العجل العجل العجل فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں
 مذکورہ نقش کو طالب اپنے دل سے ہاڑ پر بانٹے۔

نقش برائے جنب

کسی کا پہلے نام
 درخت میں لکھ لیں
 دوزخ .. عامل حضرت
 حب کہ تعویذات جا کر
 صورت میں لکھیں۔ وژ
 اس کا تراش لیا جو
 سکتا ہے۔

۴۸۹

حضرت میرزا یحییٰ علیہ السلام	حضرت میرزا محمد علیہ السلام
حضرت محمد صادق علیہ السلام	حضرت علیہ السلام
حضرت علیہ السلام	حضرت علیہ السلام

دیگر برائے حب

جیسا یہ دعا ہے جس کی پشت میں ہیں
کو کر: عزراں شکلا۔

کر: عراب کو لائیں۔ **یَا قَتْلَانُ بَعْدَ نَجْوَى يَسْمَعُ لَنَا شَيْئًا كَيْفَ شَاءَ**
يَا قَتْلَانُ بَعْدَ نَجْوَى يَسْمَعُ لَنَا شَيْئًا كَيْفَ شَاءَ
عنی حب نکلان بن نکلان

برائے حب

برسورہ مستان حضرت مولیٰ

چاپر ایک برسورہ بعد نماز فجر اقل و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف در نماز
میں سورہ اذکار مفہر ہر اس قسم اللہ کے ایک ہر ایک بار سورہ و عطر حسنا
پر شروع اذ کے ازل جب کو پڑھ کر دم کر کے نکلا کر مطلوب کے پاس
جائیں کسی وقت پڑ جائے گا۔

دیگر :- ماہ ذوال کے ازل ازل کو ازل آفرود شریف کے
ماننا ایک سو ایک برسورہ اذکار پڑھ کر عمدہ شیعہ بنی پر دم کر کے کسی
طرف سے معلوم کو نکالیں عظیم و فرما بڑا بڑا۔ اور حج میں نسب حسنا
الذی بی بی ہا مکتبہ صوفی کئی شیخ مکتبہ شکر بخیرتوں کے لاجل
رکعتوں کے ایا یا اللہ انظر لہم کو بعد نماز پڑھنا بڑا بڑا اور یہ کہنا
بڑا کہ اشد پاک اپنے کلام پاک کی برکت سے نکلان بن نکلان یا حب نکلان
کو مطلع کرے۔ آمین ثم آمین یا اللہ المستعین۔

(عملیہ صحت و نجات سے مراد یا اللہ المستعین)

دیگر :- حسب اوقات ہر راہ کی گیارہوں تا سچ کو پیشخان ہوا
بڑا کہ جنت پرست پر صاحب کو فاتحہ دربار اور ان سے الٹا کریں کو نکلان این
نکلان کے قلب میں مری اللہ پیدا ہو جائے۔ اور مرے حال پر کہ مری میں توفیق
ہو جائے کہ مری میں توفیق پڑا ہو۔ اور اس وقت تک ہر راہ کی گیارہوں
کو نذر دیتے رہیں کہ جب تک شہدہ میں کامیاب نہ ہو جائیں۔

برائے حب نکلان بن نکلان
کے اور ہر بار ہر وقت پڑھیں

۴۰	۴۵	۴۳
۶۹	۶۲	۶۹
۶۲	۶۱	۶۴

برائے حب کبیر ہے۔ اس فاتحہ کو مری کے اندر سے پڑھ کر
نکلان بن نکلان کو دیں۔ انشاء اللہ ان اثر بڑا بڑا ہوتے ہیں

۹۷۱۸	۹۶۸	یا اللہ
۹۶۸۵	۹۶۸	یا اللہ
۹۶۸۴	۹۶۸	یا اللہ
۹۶۸۳	۹۶۸	یا اللہ

حب نکلان بنت نکلان بن نکلان بن نکلان

ہر ایک کے لئے آیتہ الکرسی ستر کو آتہ یہ کہ شمس کے نرسہ بین وقت پڑھ کر
 قبل و تر درواں زانوں بیچہ کر ۳۱ آیت الکرسی بیعت ۷۰ پڑھیں اول
 تا آخر گیارہ گیارہ بار و درود شریف سے اس طرح پانچ روز کریں اور صبح کی وقت
 پڑھ کر گیارہ بار آیت الکرسی اسی و آخر درود شریف کو آتہ آواز پڑ جائے گی۔
 اس درمیان غذا پیاسے تو آتشیں بہت طوب کے دل میں بھڑک اٹھتی گی۔
 اگر اس درمیان اثر نہ معلوم ہو تو فرم کے نرسہ فرم کے در بارہ گیارہ بار
 درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر صبح کے وقت پڑھ کر
 شکر کے ساتھ پڑھ کر مطلوب کی جانب پیونگ دیا کریں۔ بڑبڑ ہے۔

اس نعت کو کہوں کہ پانچ نیت ہوگی کوئی دن ایچ متفرق نہیں ہے۔

۲ x ۱ کفا کفا صبرا ۱۰۲۱ الا الا لا

برائے حب

کئی بار کا تجربہ کیا ہوا۔ عروج ماہ میں اوزار
 کے روزہ طلوع آفتاب کے وقت لکھا جائے
 عذمت یا مکتدر الاستسکاح و صا حب الشراذ و تراہن اللہ تبارہن
 جنود اربابین و تاشہ سبائمان بن کا ارد علیہ السلام کہ یہ صحت
 ہمارت و تمارت ان ہو الا اذ کتر لعا کبیرن فلاں بین متکون
 تمام مطلوب مع کر اللہ علی بن فلاں نام طالب مع کر اللہ

برائے حب

اول و آخر گیارہ گیارہ بار و درود شریف و آیت
 ۹۱ مرتبہ و شخصہ علی اذواہم و شخصہ لکنا ایک ہفتہ
 ایک شنگ پر دم کرے دوسرے ہفتہ میں ایک چاول پان میں رکھ کر کھائے
 اور مطلوب سے بات کرے۔

دیگر برائے حب

ایک عالم کو دیکھا کہ اس نعت کو لکھ کر پڑھنے کا نام لکھ کر دوخت
 پڑھ کر اس سے کہیں کہیں ہوتے تھے ڈرنے سے بھی نہیں
 بھاگتے تھے اور صل کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ نعت کا ذکر کیا جائے گا
 پندرہ کو آتہ کے ہیں کام دیتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ میں روزیہ دیکھے اسی
 رات سے یعنی پہلی رات سے زعفران سے ۵۲ نعتیں پڑ کریں اور پورے سنگا میں
 چار رات بھر رخ ہو کر کہیں پھر دوسری شب ایک زیادہ لکھیں یعنی ۵۲
 تیسری شب ۵۳ چوتھی شب کو ۵۵ پانچویں شب ۵۱ چھٹیوں شب کو
 ۵۷ آٹھویں شب ۵۹ اور نویں شب کو ۶۰ نعتیں لکھیں۔ ارشاد اذ
 ثانی اس درمیان میں مطلوب حاضر ہو جائے گا۔

توا خواستہ اگر خاص اثر نہ ہوا تو جن ترتیب سے آپ نے
 نعتیں لکھا ہے اسی ترتیب سے تمام نعتوں کی بتی بنا کر وہ نعتیں چلی ہیں
 ترک کے ہوا دیں بتی کو صحت مطلوب کی طرف ہونے تک بتی چلتی رہے
 آپ اسے دیکھتے رہیں اور قصور مطلوب کا ہو کہ مطلوب کا دل میرے متوج
 میں مل رہا ہے۔ یہ خوب یاد رہے کہ اسی شب میں ۶۰ نعتیں لکھا ہو

بان پر مشورہ کر کھائے۔ محبت برائی۔



یوں محبت روز و شب ہو
زن و شوہر ہر روز زیر زمین و فرنگ
شور و آفتاب میں ہے۔

۷۸۶

۱۶	۱۱	۱۸
۱۷	۱۵	۱۴
۱۲	۱۹	۱۳

یاد رہا تیل یا دانیل بحت
دال یا دال یا دانیل یا دانیل
بحت یا دانیل یا دانیل
بحت یا دانیل یا دانیل
بحت یا دانیل یا دانیل

یہ دعا پڑھ کر سب سے بڑوں کے کسی کو فریفتہ کرنا چاہے تو
چاہیں ۲۱ مرتبہ کسی مدیعی ہیز پر دم کرے اور مطلب کو کھائے کر لیتے
جریے۔

عزمت بتی کچھ یا مشعر الاسرار صاحب الفرد
الونواس الخناس جلود ابلیس خاتم سیان ابن
دارد علیہم السلام ریخوت ہوت و ہماروت
ہو از ذک العالمین فلاں بن فلاں علی حب نلا

ایقنا

اس نقش کو جلا کر کسی چیز میں لاکر کھائے۔

۷۸۶

۳۳۵	۳۳۰	۳۳۷
۳۳۶	۳۳۳	۳۳۲
۳۳۱	۳۳۸	۳۳۴

دیگر پریشانی

مرتبہ پڑھتا دیکھ کر کہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ۷۸۶ یحییٰ لا اله الا اللہ سبحانہ و تعالیٰ

۳۳۵	۳۳۰	۳۳۷
۳۳۶	۳۳۳	۳۳۲
۳۳۱	۳۳۸	۳۳۴

بیت اغثنی یا عارف الاظم .. یا معنی الذین شہدوا
 محمد عبد العادرجیلانی و محبوب سبحانی ان حب
 فلاں بنت فلاں یومہجتا فلاں ابن فلاں کذا
 مہر بان شرد فرقیہہ و شقیہہ شرد مہر بد مہر بان

دیگر برائے حب

اِنَّ عَلٰی ذٰلِكَ اَلَمَ اَنْتُمْ حٰیثُ اَنْتُمْ لَمَشٰہِدًا
 اور اگر آپ کو اس پر شکی ہے تو اس سے
 کے ساتھ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈال دے

کہہ کر آگ میں ڈالے اور پتھر و مصلیٰ پڑھنے کو مبرا ہے۔

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ظ
ب	د	ج	ح	ن	ع	ص	س	ت	ث

دیگر برائے حب

امراضیہ اگر کلمہ کہ اپنے پاس رکھے

۷۸۶

۱۱	۸	۱	۱۳
۲	۱۳	۱۲	۷
۱۶	۳	۶	۹
۵	۱۰	۱۵	۴

کہہ کر زدا میں تمکارت سے مطلوب ہے کہ بارہویں اور چوبیسویں روز ہر روز
 دیگر برائے حب

۱۹	۷۲	۱۶۲	۶۶۶
۲۱	۲۵	۲۰	۲۰۲
۲۳	۲۸	۵۰	۲۱
۳	۲۳	۲۲	۱۶۲۹

برائے محبت و تسخیر :- کئی خوشیوں میں پڑھ کر دوسے
 یا سنی یا تیمریا الیچون یا سحیم یحییٰ ہذا و الا ما سجد لہ یودی
 ہر شے دگرش و عقل نام و معنی شہادت وگ داستان فلاں بن
 حب فلاں بن فلاں

دیگر

سورۃ اکتہ کمشوخ مات مرتبہ تک پڑھ کر کے آگ میں ڈال
 دیں انشاء اللہ نظام و حکم بھی بخیر ہوں گے
 طوا پر آگ میں مرتبہ پڑھ کر جلائے۔ تو ہر روز ان میں اللہ بڑے
 ان مرتبہ تک یتسکرو انک تومہ اذن من اللہ اللیل
 و نضمت و کلمک و نالافۃ من ان یوم مکتک و اللہ یقدر
 اللیل و النہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّهُ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ وَاِنَّهُ لَیَحِیْتُ النَّخِیْرَ لَشَهِیْدٌ
 مریخ پر سات مرتبہ طالب و مطلوب کے نام کے ساتھ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈال دے۔

دیکھو

چولے میں دن کرین مگر آگ ہر وقت جلی رہے تاکہ گرمی پہنچتی رہے

نورون	نمرد	سختاد	انیس
نورون	نمرد	سختاد	انیس
نمرد	نورون	انیس	سختاد
سختاد	انیس	نورون	نمرد

عزازیل شیطان

قلاں بن قلاں علی حب قلاں بن قلاں
 شیطانہ و فریفتہ کن کہ بدوں یک سست
 قزو نہ گرفت اگر نشت، توہفت طلائع
 برتر امداد و ہمشہار و صفا ہمارت برتو

دیکھو

وَاللّٰیۤكُ حَیٰكُ مَكَّیۤہُ مَرۤحُۤی وَاَلۤتَّصۤیۤعُ عَلَیۤہِ عَیۤتِی ۳۱ دانہ مریخ
 پر ہر مریخ پر ۳۱ بار پڑھ کر آگ میں ڈال جائے جب آگشت کے جلنے
 کی خوشبو آئے توڑا چھوڑ دیا جائے ورنہ خوب مریخ کے گام چاڑھ
 مقدر کے لئے روزِ خطر آگ ثابت ہو سکتا ہے۔

برائے موافقت زن و شوہر
 پانچ روپے بجلی پر پوٹلی جوڑ کر
 آٹے دن میں ایک سو
 ایک دانہ نمون کی فاصلہ تسبیح بنا کر اور ہر دانہ میں ایک ایک پڑھ کر
 کاغذ پر اور طالب کا نام اپنے مسلوب کا نام لکھ کر بھر دیا جائے رات میں
 بید نماز آتا ہر دانہ پر ایک ایک بار یہ آیت پڑھے۔ حَسْبُو اللّٰہُ
 عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ اَعْلَمُ اَسْمُوہِم وَاَعْلَمُ اَبْصَارُہِم ہر روز اول و آخر
 تین تین مرتبہ درود شریف ۲۱ یا ۳۱ یوم و اوستا کے
 ساتھ پڑھیں اس سے موافقت ہوگی۔

برائے تسخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عربی دو رکعت چارویں تسبیح

دن کو ہر عرصہ دریاں منوں قوم تمہارا رہے تمام شریعت سے
 پتھر ہو رہے ہوں۔ اللہ مرے سے میں مٹا کر رہے ہوں میں
 یہ مصیبت مری دور کر کے رکھنا ہے میں بحق کہ اللہ اکبر
 اللہ مُحَمَّدٌ اِنَّ سُوۤلَ اللّٰہِ اِسْمُہِ لُوۤی اِسْمُہِ لُوۤی اِسْمُہِ لُوۤی اِسْمُہِ لُوۤی
 رات ۱۰ بجے سے ۱۰ بجے تک کے درمیان باہری سے دُعا کے
 پڑھو۔ پانچ روز میں کامل ہو جائے پھر تین بار پڑھ کر جس کے
 اس جاؤ گے ہر بان ہوگا اور مقدر حاصل ہوگی۔

برائے تسخیر

حکام بائیں چپٹکی میں: باکر حاکم کے سامنے جانے لکھا ہوا

انھیں چاہئے۔ انشا اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ یہ نقش اسٹی حضرت کے سفیر کی نقل ہے۔

۷۸۷

۶	۱	۸
۷	۵	۲
۳	۹	۴

عالم کائنات کے خالق و پروردگار

دیگر

برائے خیر و نیکوئی اور نیکوئی کے لئے جو کہ عوذ ہے اسے چاہئے خیر نام کر دین پھر میں دائیں جانب پھر پشت کی جانب پھر بائیں جانب پھر آئین کی جانب پھر زمین کی جانب مشرق چہرہ گھیر لیں۔

دیسو۔ الصلوة والسلام و علیک یا نبی المرسلین
کھڑے ہو کر مشرق چہرہ پر دم کر دیں۔ خیر غلامی کے لئے دروزن طریقے حضرت شیخ نے لکھے ہیں۔

دیگر۔ خلاق و کاشف کی زرق تودہ یوسف زوزن ہے جس کا لفظ یوسف آئے ۷۵ مرتبہ پھر تودہ پڑھے۔ انشا اللہ تعالیٰ خلاق و کاشف نام لکھ کر زرق ہو۔

دیگر

دیگر چالیس دنوں تک روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے اس کے

مطیع دستار دار ہو جائیں گے۔ آرزو ہے۔
اللہ کلین بعبادہ یدرزق من یشاء وهو اللہ العزیز

دیگر

یہ نقش اپنی میر کسندہ کر لے۔



دیگر۔ کھانا پھنسا کر پیو۔
ایک وقت حضور پر ایک چتر ۱۲۵ اکھیں سو ہیں، جو ہر روز پڑھے۔
اول و آخر درود شریف ۲۱ مرتبہ پھر رکوعوں کو سفر کرتا چوتھیں سو لکھ لکھ
۳ عدد پانا کھانا پانا ہے۔ ہر پان پر گزیرہ مرتبہ پڑھ کر دم کو سے اول
و آخر اکیارہ بار درود شریف اور پان کی سرخی دعویٰ کر لکھا ہے۔ ان کی
پیک راہ میں چھٹے۔ اکیسے میں پیک سے کراس کو اس کے پاس چھٹے
پھر رکوع و اس کے رکوع ۲۰ بار ہر روز پڑھے روز عمل ناسخ ہو جائے۔
پھر درود رکوع کی درست اٹھانی پڑتی ہے۔ چاہئے تاکید کھو رہا ہوں۔

دیگر

آٹائیں بار لکھ کر لکھ کر پڑھ کر ت اول و آخر درود و شریف
سات سات مرتبہ کسی خوش بودا و شریف پر دم کر کے رکھ لے۔ جب کسی
ہائیں تو اس میں غور و اساتیل سے کر پانے سر میں لکھیں۔ جس کے

پاس جائیں گے مطیع و فرمانبردار ہوگا۔

دیگر

جب کسی عروسی کام سے کسی کے پاس جائے تو اڈل راخورد و تین بار اور سات مرتبہ یا کجاہٹ اس کے اہل بیت پر دم کر کے جائے۔

دیگر

اس حالت کو کلمہ کر پالنے کے نیچے ڈال دیں۔ اسے نہینہ آئے گی نہ کھانا کھائے گا نہ وقت یہ کہ وہ تیرے گھر نہ آئے گا۔
 گانا میں گنگنا ہوا ہے یہ گنگنا ہوا ہے اور گنگنا ہوا ہے
 ہن عفت مواسرینہ فامذہاویہ دما ادراک ماہیہ
 کبارہ حامیہ طالب مطہر کا نام۔

دیگر

نقش ۳۰ کو کوبہ کر ڈھنی میں رکھنے سے نام نکلاں بن نکلان۔
 نقی بن نسلان پر منتر کر دے لکھا جائے گا۔

۷۸۶

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

تسخیر کرنے اذکار و تاکانہ۔ اشرفی کل نور باخورد رسول۔ میں ایک بار
 قرآن در مذکور یاد رسول صدقہ بخینہ پاک آسرخ عالم مرا اس کو سات بار
 پڑھ کر کلمہ پر دم کر کے مٹھی باندھ لیں اور آفر کو سلام کریں پھر ان
 ہو جائے گا۔ تر و اہنا با تھ۔

یہ اسٹے حاکم۔ اسم پاک یا عجز نیز اسم بار ہوتی صبح
 لڑنے اٹھنا دوسرے کے منہ پر پھینکے اور جو حاکم کے جب بھی جائے
 پڑھ کر اسے یہ یاد دلائے۔ پڑھ کر کعت راست راست
 پڑھ کر کھڑا دیکھتا رہے۔

دفع دشمنان

اگر کسی کو دشمنی چار طرف سے گھیر لیا
 ہے اور ہر طرف سے پریشان کرتے
 ہیں تو بعد نماز اڈل راخورد و شریفیت گیارہ گیارہ بار پڑھ کر یہ برائی
 لکھیں بار پڑھیں انشا اللہ سب دفع ہوں۔

خداوند بگردان ما
 ز پشت اچھکادی تو مارا
 بخت ہر دو گویہ برتند
 زبون گردان زبردستان ارا

برائے حجب
 قندید میں گولی بنا کر آگ میں جلا دے اور دقت
 پڑھے۔ وردہ ۹۹۸۳۲ اور چاہے کہ قمر کے دریا سے
 یہ دونوں نقش آپس میں لکھ کر گولی شدہ قندید میں باندھ کر کھلا کر نہت

۲۳ ۸۲	۲۳ ۸۶	۲۳ ۸۹	۲۳ ۷۵
۲۳ ۸۷	۲۳ ۷۶	۲۳ ۸۱	۲۳ ۸۷
۲۳ ۸۸	۲۳ ۸۹	۲۳ ۸۸	۲۳ ۸۸
۲۳ ۸۵	۲۳ ۷۹	۲۳ ۷۸	۲۳ ۷۰

۱۰۰ ستی ہوگی۔ جو

دیکھنا کے تو کس

نقش کے
 نقش معظم ہے

نقش برائے حجب

۷۷۷

۸	۱۱	۱۵	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۷	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۶

برائے کینتہ

۹	۱۲	۱۵	۱
۱۳	۲	۸	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۷
۱۱	۵	۳	۱۷

۷۷۷

۱۹۹	۲۰۳	۲۰۶	۱۹۲
۲۰۵	۱۹۳	۱۹۸	۲۰۳
۱۹۳	۲۰۸	۲۰۱	۱۹۷
۲۰۲	۱۹۶	۱۹۵	۲۰۷

۷۷۷

۸	۱۲	۱۵	۱
۱۳	۲	۷	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۶
۱۱	۵	۳	۱۶

۷۸۷

۱۶۳	۱۶۷	۱۷۰	۱۵۶
۱۶۹	۱۷۷	۱۶۲	۱۶۸
۱۵۸	۱۷۲	۱۶۵	۱۶۱
۱۶۶	۱۶۰	۱۵۹	۱۷۱

اس نقش کو پانچ برس لائے
 حجاب میں مہر۔ زبان ہوگا۔

پانچ ماہ پانچ برس

نقش برائے حجب
 نقش برائے حجب
 کے لئے اس طرح ہے۔

۵۱۱ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۱

برائے حجب
 سات پھل ایک رسات مشہ اس آیت کو پڑھ کر
 دم کر کے منگوا میں مطلوبہ بناوین ہوگا۔ لَقَدْ نَدَّنا سُلَیْمٰنَ وَ
 اٰقِبٰلَ اٰخٰی کَیْسِیَہِ بَعْدَ اَمِّ اَنّٰبِ اِلٰہِ اِنْ نَعْلٰمُ عَلٰی صِبْغٰلِ اِنْ نَعْلٰمُ۔

۷۷۷

قل	ہر	اللہ	احد
اللہ	الصمد	لم یلد	
ولم	یولد	ولم	
یکن	لہ	کفرًا	احد

اسکو کوکب محبوب
 کہ گنتہ میں
 لکھیں کریں۔

نوٹ:- اس نقش کی زکوٰۃ ۳۲۵ ہر روز
 سورہ اخلاص پڑھو ہر روز ماہ میں چھ مرتبہ پڑھ کر کہے۔

ادب سے کرتا ہے کہ پورے ۲۱ عدد دلکش سوزہ انعام لکھ کر آٹھ میں گویاں
بنانے کے واسطے لکھ لیا کریں۔ بعد ۴۴ یوم کے تمام بوجھتے جا کر۔

حُب کا عمل ایک ہزار بار گندم کا گن کر ان پر ایک ایک تہہ
ذیل کا عمل پڑھے۔ پھر ان دالوں کو کسی پاک برتن میں ڈال کر نرم پانچ
گرم کرے۔ اس طرح سات دن یہ عمل کرے۔ دُعا
اے اللہ! ہفتہ نماں میں تلاوت اور عبت نماں اور نماں کرے
کہ شکر و حب کیلئے
عزیز تر دہاں در دلِ فلان ابنِ فلان بحقِ لائے
اے اللہ! محمد رسول اللہ کیسے بارش در در شہادت اولہ و آخرہ گیارہ گیارہ
بار پڑھے کہ شکر ہی پر دم کے مطلوب کو کھلا دین۔

وہ ان شرا اناسیرت بہ الجبال افر
تطبت بہ الارض او حکم بہ المرتق بل اللہ الاسر صیغاً
تغشیرات عبت نماں میں تلاوت اور نماں کرے

۶۱

۲	۷	۶
۹	۸	۱
۳	۳	۸

۶۰

۵۰۰	۳۹۳	۲۹۸
۳۹۵	۳۹۷	۳۹۹
۳۹۶	۵۰۱	۳۹۴

۶۸۷

۲۵۰	۲۵۳	۲۵۶	۲۵۲
۲۵۵	۲۵۲	۲۵۹	۲۵۴
۲۵۵	۲۵۸	۲۵۱	۲۵۸
۲۵۲	۲۵۷	۲۵۴	۲۵۷

لکھ کر باز پڑھتا ہے صدین

حُب کیلئے !

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْعِلْمَ الْفَعْلَ اَتَّخِذُ الصَّمَلَ اَللّٰهُمَّ
اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِیْ لَا یَنْفَعُ اِلَّا بِالْحِلَالِ وَالْاِذْکَرَامِ۔


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَّیْتُ اللّٰهَ عَلٰی قَدْرِیْهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ
فَسَادَتْ لِقٰتُهُمْ عَلٰی نَبِّهِمْ
سات بار پڑھے کسی بھی چیز پر دم کرے کمال دین۔

تغشیرات عادت وود شمنی

لعلہم کرنوں میں تلاوت۔ وَالَّذِیْنَ اَتَتْهُمُ الْمَوْتُ اِلٰهًا وَرَبًّا
فَاَلِّمُ الْقِیٰمَةَ اَنْتَا رَبُّ الشَّیْطٰنِ اَنْتَا رَبُّ یَسْتَعِیْنُکَ الْعَدُوَّةُ

والذی یمن من النہم و الیسی و فیض کما عن ذکرا اللہ و عدت
 بالمسکونۃ ہبل انتم منتم ہوت بین فلاوی بن فلاوی علی اللہ اذین
 دلیۃ مراد فلاوی بن فلاوی اللیل المعجل الساعۃ الساعۃ



فلاوی بن فلاوی

نلیات استرق

۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

نکھ کر مکان میں
 لڑا دیں۔

بزارہ و دشمنی و عدل اوت

اس نقش کو سات مرتبہ میں منجھل یا ہفتہ کے روز زوال قریشی کھو
 اور بخلا قبر میں ڈالو، فلاوی بن فلاوی کی جگہ ان دونوں کے نام لکھو جن کے
 درمیان عداوت تھی یہ فوراً اثر ہوگا۔ نقش اس کا لکھیں۔

۱	انت الذی	۱۱	لایطان
۲	الشدید	۱۲	انت الذی
۳	قوالبعش	۱۳	الشدید
۴	یا تاہرا	۱۴	لایطان
۵		۱۵	انت الذی
۶		۱۶	الشدید
۷		۱۷	لایطان
۸		۱۸	انت الذی
۹		۱۹	الشدید
۱۰		۲۰	لایطان

مٹھاسی اور ہادی و دشمنی کے لئے

مکھری یا بچرے کا دل لاسے اور یہ نقش ایک کاغذ پر لکھ کر نقش کے
 نیچے ہاتھ دھو اور اس کے والدہ کا کھڑکھڑ کر دل کو پیر کر اس میں رکھ کر سات
 سوئیاں اس طرح گاڑیں کہ وہ شگات بند ہو جائے لیکن ہر سوئی پر
 سات مرتبہ آگ پڑھیں یہ پڑھ کر چھو دیں اور بڑی قبر میں دھن کر دیں
 انشاء اللہ نفالی ہوں۔ ہفتہ میں دشمن بیمار ہو جائے گا۔ جہاں پر کریں جہاں پر

۲۲۲	۲۱۷	۲۲۲
۲۱۹	۲۲۱	۲۲۳
۲۲۰	۲۲۵	۲۱۸

فلاوی بن فلاوی
 ڈیسگر

و عاصے جیاری ایک سینہ تہرہ ہانی سے۔ بگڑا دشمن مغلوب ہوئے
 ہیں اور دشمنان اسلام ہلاک ہوئے ہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ اگر ہلاک
 ہونے والے اسلام اور فتح و نصرت مشرک اسلام کے لئے یہ دھما پڑھنی چاہئے
 اور عداوت کثیر سبب میں یا کسی ایک اور مکان میں پڑھیں جس طرح ختم خواہ
 اور عداوت ہے۔ اور عداوت میں پڑھنے کے لئے کسی کس تعداد ۲۱ بار ہے اور
 ہر لمحہ ایک جلسہ میں اکیس بار پڑھے۔ چاہے جوئی تعداد ہزاروں ایک

کیوں نہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ مگر ہر آدمی ۲۱ مرتبہ بڑھ کر لپٹا کی
 دشمنانہ دین کے لئے دعا کریں۔ جب ایک دوی تلونی دشمن کے لئے لپٹے تو
 ترکیب یہ ہے کہ ایک سو اچتر ۱۶۹ مرتبہ روزانہ لپٹے اس ترکیب سے کہ
 دشمن کا نام زمین پر رکھے۔ گروہی کی بڑک۔ سے اور قمار و روخت۔ جیسے بول
 یعنی کسی یا پیر کی کا شلخ پانچ میں ہے اور تیرہ مرتبہ بڑھ کر شلخ پر دم
 کر کے تین مرتبہ اس نام پر اسے پھر تیرہ مرتبہ لپٹے اور نام پر لپٹے
 اس طرح تیرہ مرتبہ کیسے کنی تو دار ایک سو اچتر ۱۶۹ مرتبہ تیرہ مرتبہ جو
 اور لپٹے تیرہ مرتبہ کیسے کنی تو دار ایک سو اچتر ۱۶۹ مرتبہ تیرہ مرتبہ جو
 عدیت تا لپٹے اگر دشمن کا بڑھ یا اللہ بڑھ کا نام ہے تو پھر زمین پر
 مت کہو تصور سے دشمن کا قتال کیسے ہونے زمین پر مارو۔ یہ تیرہ روز
 کا ہے۔ کوئی پر ہیز ہیت یا دن کی مزدورت و شرط نہیں ہے۔ دماغ سے سہوی
 یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا كَلِمَةُ الْوَعْدِ
 يَا مَنْ لَا يَأْتِيهِ الْهَوْلُ وَالْخَوْفُ
 يَا مَنْ لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ
 يَا مَنْ لَا يَأْتِيهِ الْعِلْمُ وَالْغُلْمُ
 يَا مَنْ لَا يَأْتِيهِ الْعِلْمُ وَالْغُلْمُ
 يَا مَنْ لَا يَأْتِيهِ الْعِلْمُ وَالْغُلْمُ
 يَا مَنْ لَا يَأْتِيهِ الْعِلْمُ وَالْغُلْمُ

دیگر گھوڑے کے پلٹے نسل پر دشمن کا نام نہ والی کے تقرر کرے
 اور اس کے نیچے یہ نقش اور آگ میں ڈال دے دشمن سے جین چو کرے

لپٹ کرے کی کو مشن کرے گا۔ نقش یہ ہے



جو اسے مفاہرت سے زیادہ دشمن سے حفاظت کا عمل کریں
 حسب ذیل طریقے سے پڑھیں۔ مذکورہ روز و شب تین دن و آدھ گیارہ مرتبہ پڑھیں۔
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہ لپٹے مفاہرت سے بر آورد شخصوں میں مفاہرت تصور ہو تو پہلے ہی
 تو فیکے تین دن اور جو ہے کی پڑھیں گے میں یاں تیرہ علیحدہ علیحدہ کاغذ میں باغی
 کے دن سورج نکلنے سے قبل ایک کاغذ پر ایک نام اور دوسرے کاغذ
 کا سرے کا نام اسے تمام سے تھے یعنی جس طرف کھلنے کی تیر لگتی ہے۔
 ہر ایک طرف سے لکھے۔ کہ تم کی صورت نہ بنائیں۔ اب دونوں کاغذ کو
 دونوں طرف رکھو درمیان میں خود لپیٹو۔ اور ایک پڑیہ پر پڑھو۔ یا موشو
 اور سرے پڑیہ پر نظر کر کے پڑھو۔ اس طرح تین لپٹے مرتبہ پڑھو۔ بعد
 کا دونوں پڑیاں ایک جوبے کے ایک جانب اور دوسرے سرے جانب
 کر دو۔ خوا چاہے تو تین دن میں مفاہرت ہوگی۔

علاوہ ازیں: یغض کے لئے جب سات عذابوں کے شروع ہونے پر ظلم فرمادے اور روزانہ ایک پست اذانِ مغرب صبح کرے اور صبح سے دوپہر تک بیٹے بچے اور سب سے لوہے کا پتھر بٹا رہے اور اس پر لکھا جہانے رکھے اور گے کو نانا کز تعلق اجل رسا ہے۔ یہ عمل شیخ حضرت شہداء کوئے اور جسے کہتے کرے۔ ظالم سے ہے۔

غزوت علی کدی مہر
نعل ال دادا د۱۶۹۱۱ احمد

بجائے مصلحتا آوتے: کاغذ پر لکھ کر گزین میں ڈال دے۔ اگر کسی کے شوہر سے دوسری شادی ہوئی ہے اور ان دونوں میں عداوت کرانی ہے آٹھ روزوں کے اندر جو اتنی واقع ہو۔

۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

تکبیر صحت گفتہ: صحت روزہ مکمل ہو حوط

بجائے مقہور: اجرا کی پرانی قبر سے ڈیٹ اٹھا لائے اور اس پر سورہ الفیل لکھ دینا اور نام کے ساتھ اس پر لکھنا پڑھنا اور سورہ الفیل پڑھ کر دم کرے اس کے بعد ایشٹ کو گزین میں ڈال دے دشمن اجل ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس کو پھینک پائی نہ پئے گا اچھا نہیں ہوگا۔

۱۳	۱۴	۱۵
۱۴	۱۵	۱۶
۱۵	۱۶	۱۷

۱۲	۱۳	۱۴
۱۳	۱۴	۱۵
۱۴	۱۵	۱۶

جو اس دعا کو پڑھے گا کفار اس پر غالب نہ آئیں گے۔
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا عِدَیٰٓ اَیۡتٰنِۙ ۙ کَلِمٰتِہٖمَا کَفَرٍ
وَلَعَلَّہٗمَا لَکُمۡ اٰیٰتٌ اَلٰیۤ اَیۡتِہٖمَا الْکٰرِہِیۡنِ

بجائے مقہوری دشمن: لالہ کی گمان لالہ کا تیر دشمن کی چھاتی
- سورہ تیسہ تا مقہوری اجرا پڑھے۔

ال یغض: سیار مزج کے چالیس ڈالوں پر سورہ الفیل پڑھ کر دم کرے اور عرصہ کے درمیان سختی پڑی کرنا پڑھنا کا نام ہے کہ آج میں ڈال دے۔ عداوت ہوگی مجبیر ہے۔

بجائے مذہوری دشمن: سورہ نصر و پھر ایہ قرآن
مسیح الدین کے نام پر پڑھنا اور پڑھنے کے بعد پڑھنے
اور دم کر کے دشمن کے گھر میں ڈال دے۔

میرا لے عبادت :- اس توڑ کو لکھ کر آگ میں پٹالے۔

۱۰۲۳ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵

لَقَدْ تَابَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَ
اِبْرٰهِيْمَ الَّذِي هُوَ مِنَ الْاٰمِيْنِ

اس آیت کو لکھ کر کوئی دشمن چیز ڈال کر دفن کر دے آقیامت بخدا ہے۔

۷۰	۷۱	۷۲	۷۳
۷۴	۷۵	۷۶	۷۷
۷۸	۷۹	۸۰	۸۱
۸۲	۸۳	۸۴	۸۵

نلان بنت نلان - و نلان بن نلان
باقی است جانانی شورو۔
دیکھو

سورۃ الف نشت برح سہ مرتبہ سورہ کوڑ ۳ مرتبہ پڑھ کر لکھی پر دم
کر کے دوڑوں کے گھر میں ڈال دے۔ الظاہر اللہ دوڑوں میں عبادت تہن

میرا لے مقہوس ہی اعلا :- اگر ۱۲ عدد کوٹھ پر اس آیت کو
۱۲ مرتبہ دم کر کے دشمن کے گھر کی دیوار پر اسے تو دشمن مقہور ہو
سلسل ۱۲ روز تک کرے۔ کلا ہون شاکیہ کلاب ذی بقی و حدیث تہن

ذوالجلال و الاکرام ذ

البعض :- سورہ ناس - سورہ کے ہر نظام پر لفظ ناس کو رسا
مرتبہ کے اس طرح طالب و مغلوب کے نام کے ساتھ مسلم ثابت سرخ
میری پر دم کر کے اور جلائے ان امریک دم کر کے پوری سورہ پڑھ
جائے۔

سورۃ بعض و اعلا اور تہن :- سورہ آلم کتھم تہن مرتبہ
کر کے دوڑوں کے گھر میں ڈال دینا۔ جلائی
پڑکی۔ مجرب ہے۔

دیکھو اگر کوئی دشمن تم کو ہر تو ایک مٹھی چوراہے کی خاک پر پڑھ کر
دشمن کے دروازے پر پھینک دے طبع و فرما بردار ہوگا۔

لَا تَدْرِيْ لَكَ دُوْلُوْا هُمْ وَّلٰكِنْ اِنَّهٗ تَدْرِيْ
ذٰلِكَ اَمْ اَنْتَ اِيَّا ذٰلِكَ اَمْ اِنَّهٗ تَدْرِيْ

دیکھو گہروں کے آنے کی روٹی پر بیٹھے کبھی دشمن کو لکھ کر یاہ کے کہ لو کلا تہن

۵ ۸۸۱ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵

نلان بن نلان بن نلان بن نلان بن نلان

برائے استخارہ

جس سے حال معلوم ہو اور مردہ سے
لاتات بھی ہو سکتی ہے اول دو گز

تہاڑ سے پانی رکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ سات بار دوسری بار
سورہ والہین سات بار اخیر شریف کے بعد اس وقت تک کہ کھرا پتھر لکیر کے نیچے
دکھ کر جائے حال معلوم ہو گا اور اگر مردہ سے لاتات کرنا ہے تو طاقات ہو گی۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ا	ل	م	ص
ل	م	ص	ا
م	ا	ص	ل
ص	ل	ا	م



دیگر اس نقش کو گزراں سے لکھ کر سفید کا تڑ پر سو تہ و تہ واپنی بازو
پر بازو کر بر جائیں انشاء اللہ کل حال معلوم ہو جائے گا۔ اگر پہلے شب میں نہ
ہو تو مزاد میں شب کے اندر کے اندر معلوم جائے گا۔

۷۸۶

یا علی	یا علی
یا بیدار	یا بیدار
یا بیدار	یا بیدار
یا علی	یا علی



دیگر اول داخر ایک سو بار درود شریف بعد ۱۰۰ ھو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا
انکھو عالمہ الغیب و الشہادۃ ۱۰۰ پڑھ کر نیت دکام کو خیال کر کے
انکھتی ہے عرض کر کے باور شب میں سو یا نہیں انشاء اللہ جواب میں سہا
حال معلوم ہو جائے گا۔



دیگر سیر یا تجارت یا ہون ان باتوں میں کسی رات کو کھڑ کر اور پہلے وقت
کا نقش کر کے اپنے سرانے رکھ کر سوجائے انشاء اللہ تمنا تمام حالات
معلوم ہو جائیں گے۔

۷۸۶

۳	۶	۹	۷
۵	۷	۹	۶
۷	۸	۹	۸
۶	۸	۸	۵



دیگر کسی معارف میں تیراں و پیر شان ہوں تو سونے سے قبل ۱۰۰ مرتبہ
درود شریف پھر ۳۰ مرتبہ ۱۰۰ ھو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا انکھو عالمہ الغیب
۱۰۰ پڑھ کر نیت دکام کو خیال کر کے باور شب میں سو یا نہیں انشاء اللہ
اس وقت تک کہ اپنے سرانے رکھ کر سوجائے انشاء اللہ تمام حالات
معلوم ہو جائیں گے۔



دیگر یہ طہارت و نہر کے چار بار اعلیٰ والا تہہ بلا بائیس تک پڑھے۔ وہ اس نقشِ شائے کو لکھ کر حکیم کے نیچے رکھے جو دلی مراد ہر اس کا قصور کر کے مومے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۵۶	۵۱	۵۸
۵۷	۵۵	۵۲
۵۲	۵۹	۵۳

دیگر یہ تو زجلہ نامہ اور جملہ کاموں میں بہتر ہے لکھ کر موم چاند کر کے یا پتھریں و زعفران سے لکھیں اور دھو کر پلائیں۔ رات میں سوتے وقت سر پر رکھ کر کام یا احوال کا قصور کر کے سو جائیں۔ خواب میں مال و احوال سب معلوم ہو جائیں گے۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا سَعْدِیُّنَ یَا سَعْدِیُّنَ یَا سَعْدِیُّنَ
 یَا سَعْدِیُّمَ یَا سَعْدِیُّمَ یَا سَعْدِیُّمَ
 یٰحٰی قُوَّةَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ
 وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ

دیگر یہ جبرائیل جبر کی رات کو رات نماز عشاء کے بعد سب کاموں سے ڈھک ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیٹ کر پڑھ کر سورہ الم نشرح

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ اور سید پر دم کرے اور تھانہ قافی سے دھا کر کے کر لگاں امر میں جو ہونے والے ہیں وہ بخوبی خواب یا خودگی میں کسی آواز دینے والے کی آواز سے معلوم کرادے اس کے بعد یہ درود شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر سو رہے۔ درود یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰی مَعْلُوْمِ الْکَلِمَ۔ دوسری جگہ یہ درود ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰی مَعْلُوْمِ الْکَلِمَ

میرا نام ہے اب اسے پڑھ کر سب کاموں میں اول ۵ بار درود شریف پڑھ کر لائیں اور پھر التورہ الباسطہ پڑھتے رہیں نیز آئے گے تو ۵ بار درود شریف پڑھ کر سو رہے۔ رات دل میں رہتے۔

برائے فسوح رزق

رُحْمَان سے با وضو تلبیر رخسار صبح کی نماز کے بعد ۲۸۹ چار سو دہائی لکھ کر آنے کی گولی میں بنا کر پھلی کو چالیں دن کھلائیں انشاء اللہ فتح رزق بکثرت ہو۔

۷۸۶

ت	ح	ت	ح
ح	ت	ح	ت
ت	ح	ت	ح
ح	ت	ح	ت

کشاہت زرق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کو لکھ کر
آویزاں کریں
ادویں میں
خیر و برکت
کے
تعمیر و تعمیر
ادریں طلب
تے لکھ کر

عزیزان علیہ السلام
عزیزان علیہ السلام
عزیزان علیہ السلام
عزیزان علیہ السلام

لا الہ الا اللہ
محمد صلوٰۃ اللہ علیہ
والآلہٖ وسلّم

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۴	۲	۹

لا الہ الا اللہ
او اھدیٰ خلد اللہ
علیہ وسلم

حضرت محمدؐ سید اشرف بہا نمبر سنانا و زکاتہ اللہ علیہ

اس کو لکھ کر
آویزاں کریں
ادویں میں
خیر و برکت
کے
تعمیر و تعمیر
ادریں طلب
تے لکھ کر

دوکان و
مکان میں
لٹکا تیں۔
اور برکت
تعمیر و تعمیر
دھونی دیا
کریں۔

ترقی زرق

۷۸۶

۲۶۷۱	۳۶۷۲	۳۱۷۷	۳۶۷۳
۳۶۷۴	۳۶۷۵	۳۶۷۰	۳۶۷۵
۳۶۷۶	۳۶۷۹	۳۶۷۲	۳۶۷۹
۳۶۷۳	۳۶۷۸	۳۶۷۷	۳۶۷۸

۷۸۶

۷۹	۸۰	۸۳	۷۹
۸۲	۷۰	۷۵	۸۱
۷۱	۸۵	۷۸	۷۲
۷۹	۷۳	۷۲	۸۲

خیر و برکت

نقش برائے ترقی زرق مکان یا دوکان میں لگائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزیزان علیہ السلام
عزیزان علیہ السلام
عزیزان علیہ السلام
عزیزان علیہ السلام

لا الہ الا اللہ
محمد صلوٰۃ اللہ علیہ
والآلہٖ وسلّم

۳۳۲	۳۳۷	۳۳۲
۳۳۱	۳۳۵	۳۳۹
۳۳۰	۳۳۳	۳۳۵

لا الہ الا اللہ
او اھدیٰ خلد اللہ
علیہ وسلم

حضرت محمدؐ سید اشرف بہا نمبر سنانا و زکاتہ اللہ علیہ

۱	ح	۷۸۶	د	من
۱	۲۳۳	۲۲۷	۲۳۳	۱
۲	۲۳۳	۲۳۱	۲۲۹	۲
۳	۲۲۸	۲۳۵	۲۳۰	۳
۴	۱۵	۱۵	۱۵	۴

حضرت زرق پیکتے
دعوت ترقی کیتے درمیان منسرت ہشار کے ان
تہ ۲۲۸ مرتبہ پڑھا کریں۔ رَسْمٌ مِّنْ رَّسْمِ اللّٰهِ یُجْعَلُ لَکَ اَخْرَجْنَا
اَلَّذِیْنَ یُوْنِسَ مِنْ حَیْطٍ لَا یُخْتَبَطُ بِہَا وَ مِنْ یَتْرُکْ عَلٰی اللّٰہِ تَعَلَّوْ

۷۸۶

۶۹	۷۱	۷۵
۵۹	۶۷	۶۵
۷۳	۶۳	۶۵

برائے کثافت رزق

يَا كَلِيْفَةُ اَلطَّفِ بِاَطْفَانِكَ

یا کلایفہ! لطیفی باطفانک
 ایک سو ایک بار روزانہ پڑھیں۔

پالینٹا چرمک گیادہ مرتبہ بعد نماز پڑھے۔ حسبہ انہی
 وَاَعْتَمِدْ اَلْحَمْلَ ط اور عید کے بعد کاغذ پر اس آیت کو لکھ کر کہیں میں ڈال جائے
 وَهَذَا مَكْتُبٌ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِمًا لِّئَلَّا
 تَتَّكِبُوْنَ عَلٰى اَشْءَاغِ الْاَرْضِ وَتُنْفِقُوْنَ فِيهَا سِرًّا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ کثر میں رحمت و فیض کے نوازے
 ہیں۔ جس کسی نے اس سورۃ شریفہ کا صلہ کیا اس کے واسطے پہاڑ سونے
 چاندی کے ہر جائیں تو بلب نہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ دن رات اس دفتر
 دفتر کر کے یا ایک ہی نشست میں سات سو پچیس مرتبہ پڑھیں۔ انشاء اللہ
 پارے کے اندر خاص اثر اس دورہ کو شروع ہوا کریں گے۔

دفع تنگی رزق

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَمَاتَتْ اَشْجَارٌ اِلَّا
 اَلْجَبَلِ اَلرُّسَّاسَ فَتَجَدَّدَ اَلشَّجَرُ اَنْزَالِ

ترکیب : ۳۱ بار روزانہ میں پندرہ مرتبہ پڑھیں۔ اگر نماز پڑھ
 کر ڈوب لیٹ کر دہاتا با تہرہ دس ہنہ کان کے نیچے رکھ کر اقل و آخر میں تین مرتبہ
 روزانہ پڑھیں۔ مہینہ آدھ است ایک بار پڑھیں اور چھ سو چالیس
 پورے مہینے کی قسمت پڑھیں۔ یہ سورہ۔ سید لکھتے ہیں بعد اگر کھل گئی یا
 ہو گی ست کوئی بات کیا اٹھ کر کوئی کام کیا تو ست نہیں ہے۔ اگر انسان
 سے سخت مزدورت پرینڈ آئے کے تسلیل کن سے اپنے کیا تو عمل ڈھٹایا
 ایا انہو کے چار رکعت نماز لکھ ادا کریں دو بار اسی ترکیب سے پڑھیں۔
 پر پور گشت عین انڈیا یا ہن سون وغیرہ۔ دودھ دہی پھوڑا کھا سکتے ہیں۔

دیگر ایک سو ایک بار روز میں پڑھے۔ بعد نماز میں پڑھے۔ وَلَا تَكْفُرْ
 وَلَا تَتَّبِعْ اِلَّا بِاَمْرِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اِيَّا نَدُّ نِيَا وَتَدِّيَا اِحْد
 يَا صِدْق

برائے حافظہ

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی کریم اللہ وہ کو قائل فرمایا۔ دفتر
 اس پاک قاصد کی جن۔ ترجمہ یہاں عطا فرمائی۔ یہ عمل نو سو سے
 ملا نہیں کرتا۔ جمعہ کی شب کو سوار پڑھیں۔ حدیث مروی شریف ہیں

بہت طویل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِبِیٰحِیۃِ السَّنُوۡنِ
 وَ الْاَسْرَاجِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ وَ الْعِزَّةِ الْکُبْرٰی
 لَا اِطْمَاحَ اِلَیْکَ یَا اَللّٰهُ یَا سَمِیْعُ یَا جَلِیْلُ وَ نَزُو
 رَجِہِکَ اَنْ تَشْرَکَ بِکَ مَا یُشْرِکُ بِکَ یَضْرِبُکَ اَنْ تُطَاقَ
 بِہِ لِسَانِیْ وَ اَنْ تُفْرَجَ بِہِ عَمَّا کَلَمَیْ وَ اَنْ تُسْمَعَ
 بِہِ ضَلٰوِیْ وَ اَنْ تُفْشَلَ بِہِ کَلِمٰتِیْ یَا اَللّٰهُ لَا
 یُغَیْبُ عَمَّا تُشَآءُ وَ لَیْسَ لَکَ اِلٰہٌ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ
 وَ لَا تَحْوِلْ وَ لَا تَوَدَّ اِلَّا بِاَمْرِ اللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

دیگر اگر کسی دماغ کمزور ہے تو اس فتنہ کو لکھ کر زمزم سے سر میں جاوے
 سے کمزوری دماغ باقی رہے گی فتنہ یہ ہے۔

۲۸	۳۲	۳۰	۱۳
۲۸	۱۶	۲۶	۳۶
۱۸	۲۳	۲۰	۲۳
۲۲	۲۲	۲۰	۲۲

دیگر جو دماغ کمزور ہے اور فتنہ سے بھاگتا ہو یا اس میں فتنہ ہو یا
 یہ فتنہ زمزم سے بارشوں کو کر پانگی کی آمدنی میں محفوظ کر کے بیٹے

کے گلے میں ڈالیں۔ فتنہ برد کے روز طلوع آفتاب کے بعد پڑھ کر لیں۔ اور
 روزانہ یہی آیت شریف کسی شیراز پر پڑھیں و فتنہ پڑھ کر بیچ رہا تم سے بیکے کر
 کھلا دیا کریں۔ موت سات یوم کریں خدا پاس ہے تو ذہن روشن ہوگا۔ تو پڑھنے
 میں رہے۔ آیت یہ ہے۔
 تَوْنِ وَ الْقَلَمِ زَمًا یَسْطُرُونَ

۷۸۶

مستور	ذو القلم	ذمنا	یَسْطُرُونَ
ذو القلم	ذمنا	یَسْطُرُونَ	تَوْنِ
یَسْطُرُونَ	تَوْنِ	والتلم	ذمنا

دیگر کتاوگی ذہن درجہ میں سات دن تک سورہ فاتحہ کو پادشہ اور
 کھ کر دم کر کے پڑھیں۔ انہر تالی اسکو حل و صحت عطا کیے گا اور اس کے
 دل سے قاعدہ افتکار کو دور کرے گا اور اس کے ذہن حافظہ میں ترقی ہوگی

دیگر علم و اسباق پڑھنے کے بعد یاد رہتا ہو تو اس فتنہ کو روزانہ
 کے وقت دیکھیں۔ انشاء اللہ یاد ہو جائے گا اور پڑھے گا نہ بھولے گا۔

۷۸۶

ص ص	ع ع	و و	ط ط
د د	ع ع	ص ص	و و
ط ط	و و	ع ع	ع ع
ر ط	ط ط	ط ط	ع ع

دیگوں جو شغل جیہہ اگری پلٹے اپنے اگری کی ہتھیلی پر لکھ کر چاٹے تو مانگو بڑھو پلٹے۔
مسئلہ سات دانوں کا کرے۔

امتحان اور مقاصد کی کامیابی کے لئے


اگر کوئی شخص کسی تنزیہ میں گرفتار ہو تو اس کو چاہئے کہ روزانہ پندرہ
نیت کرے اور اس نیت میں اس کے لئے ان نیتوں کا استعمال کرے۔
اگر ایسا نہ ہو تو پندرہ نیتوں میں سے کسی ایک نیت کو استعمال کرے۔

۷۸۶



پہنچا

دیگوں برائے ہر کار نمانت بہت در بہت اور بدوح برائے ہیں اور اسے چھین
کار و نیت یابی خوب است۔



۷۸

دیگوں امتحان شدت و دیگر تمام تر جہوں کے لئے باذوق و بااندھ کر جائیں
۲۰ یاب رہیں گے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۴	۷
۳	۲	۵	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

پہنچا

دیگوں نقش کامیابی امتحان

۷۸۶

۱۵۵۹	۱۵۶۲	۱۵۶۴	۱۵۵۳
۱۵۶۵	۱۵۵۳	۱۵۵۸	۱۵۶۳
۱۵۵۲	۱۵۶۸	۱۵۶۰	۱۵۵۷
۱۵۶۱	۱۵۵۶	۱۵۵۵	۱۵۶۷

گمشدہ و مفروضہ کے لئے

اپنی بجزت سعادت خواجہ
ابوالحسن گامذروال خیر اعظم

است باز آید گیارہ مرتبہ قتل و آفرود شرین تین مرتبہ پڑھ کر پختون
پر دم کرنے چاروں سمت چونک کر دستک دے انتشار اللہ تعالیٰ بہت
جلد مفروضہ گم شدہ واپس آجائے گا۔ بدنامی جیت صاحب رسول کے
تمام فاتحہ دے کر پختون میں تقسیم کر دے۔

دیگر: مفروضہ واپسی کے لئے پتھر کے نیچے رہا ہے۔

پندرہ ۷۸۶ براہ مغرب

۱	بداح	د
بداح	نلایا این بیلان	بداح
۹	بداح	ح

پندرہ راہ شمال

پندرہ راہ جنوب

پندرہ راہ جنوب



دیگر: جس جگہ سادی یا چیز گم ہو جائے تو پتھر میں گھنٹہ پڑھ کر ان
سرورہ و اسٹی پڑھیں انگریزہ والی اٹھنے کے سرے کو سر کے ارد گرد پھیرتے
ہوئیں پھر تین بار اذیت فی آقان اللہ اسیٹ فی جو اس اللہ
پڑھیں۔ انسان یا جن یا پری۔ نے لگی ہو تو برب ہے۔

دیگر: سورہ یسین کو زمین اگر زمین تک لپکتے پڑھو گنجی سے کھانا پورا اور
بند پڑتا ہو۔ اس پر سات مرتبہ پڑھ کر باری پانی میں ڈال دے اگر کونے
گھر سے میں ڈال کر متینہ کر دے۔ جب تک مفروضہ واپس نہ آئے سالانہ
کھائے۔ برب ہے۔



دیگر: اگر کوئی شخص فراہ ہوا مکان آنے سے انکار کرنا پڑ تو یہ آیت لے
آؤ اور رکے اور اس کو تان سے روکھا جائے وہاں لٹکائے۔
پندرہ راہ جنوب



دیگر: مفروضہ کے لئے: ہر ہزار بار اذیت فی جو اس اللہ پڑھے ایک
بلہ میں تو مفروضہ واپس آجائے گا۔ برب ہے۔



دیگر: یہ نقش لکھ کر میل کے درخت میں اونچی جگہ پر لٹکے مفروضہ واپس
آجائے گا۔

بیلان ۷۸۶ میکا

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۴

بیلان

بیلان



دیگر اگر کسی کو بھانگے کی عادت ہو اور بار بار بھاگ کر ہر وقت تیرا سکو
کھے اور اس شخص کو ایک ہفتہ تک دھو کر پلائے
و کفنی یا اللہ و کفنی یا اللہ شہید از کفنی
یا اللہ نصیرا کفنی یا اللہ سرمد و لا

اس تشریح کو مغز کے کپسے پر لکھ کر پلائے۔ اور ادا پائی گئے گا۔



پہلے سے تمام مسرت سے۔ اس تشریح کو گھڑ پندی پر لکھ گئے
جیسے جیسے اس میں آفتاب کی گری پہنچے گی پر گادل سے ۳۱ بجے گا۔ اور
وہ لڑکا مال کو مکان میں پھینک جائے گا۔

۷۸۶

۳۸	۳۲	۳۵	۳۰
۳۳	۳۱	۳۴	۳۳
۳۲	۳۰	۳۶	۳۶
۳۱	۳۵	۳۳	۳۶

کسی چیز کے گم ہونے یا چوری ہونے پر۔ درود شریف ۳ بار

انشاء اللہ و انک علیہ سکا اجمعین ط ۵ بار پڑھے۔ ہر وقت ان کا
ایک بار پڑھے۔ پھر درود شریف تین بار پڑھے۔ اور پھر کہہ دے تلال
وقت تک آجائے گا۔ ان کے لئے انشاء اللہ کالی ضرور ہر گا۔ رو میا
میں پڑھتے وقت بات نہ کریں۔

پہلے سے مغز
اجینٹ

تلال بنت تلال ا تلال اس تلال

دیگر اس کو لکھ کر چتر میں پاندہ کر روزانہ لکھا کر وہ غنڈہ لکھا جائے
مذہب صاحب کا ارشاد ہے۔

دیگر سورۃ والین کو دو ہزار بار پڑھے اور یہ تشریح لکھ کر پتھر کے نیچے دبائے
تھاکے حکم سے غائب ماضی ہے۔

۷۸۶

۲۱۰۴	۲۱۰۷	۲۱۱۰	۲۱۹۹
۲۱۰۹	۲۱۹۷	۲۱۰۲	۲۱۰۸
۲۰۹۸	۲۰۱۲	۲۱۰۵	۲۱۰۱
۲۱۰۶	۲۱۰۰	۲۱۹۹	۲۱۰۱



ڈراؤ تا خواب اگر کوئی شخصی خواب میں ڈرتا ہو یا ڈرتی ہو
ڈراؤ تا خواب ہو اس کو ہلاکت سے بچھڑکے یا سرسے میں

رکھ کر سو جائیں۔ سب برکتیں موقت ہوں۔

یصلیٰ عا	مکسلمینکا	کشفوطط
أمن رظیر بوش	وَلَوْلَا اللَّهُ لَفَدَّ كَيْسٌ	تنبو لنس
بشالین	بوس	واسم کاکھ قلا

کچھ بچے رات کو ڈرتے ہیں۔ بہتوں کو پیشاب یا ستر بھل آتا ہے۔
یعنی بچے نظر سے کھٹک رہ جاتے ہیں۔ گتے، بکری اور بھینس کو بھی
نظر لگ جاتا ہے۔ اس فتنہ کو شیعہ کے روز طلوع آفتاب کے پندرہ
منٹ بعد کھ کر کے ان ڈال دیں ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ یہ ہے۔

صم	۷۷	۳۴	۸۲
صح	۱۵	۵	۲
صلح	۷۵	۹۲	ح
یصلح	۲	۴۴	ا

بچہ کو نظر لگ جاتا ہے یا رات کو خواب میں ڈرتے ہیں یا وامت
یتے ہیں یا رات کو سوتے میں پیشاب کر دیتے ہیں ایسے بچوں کے

و سلمیٰ سلاۃ قولاً فمن سلاۃ الرحمٰن بسم اللہ شرف
کے لکھ کر تپ کے گئے ہیں ڈالیں انشاء اللہ تمام شکایتیں رونج و رخ ہوں۔

اگر کوئی بچہ خواب میں پیشاب کرتا پرتو تیرے پاس سے کہ میں اڑھیں۔

اللہ	محمد	علی
اللہ	عوب	علی
ل	ل	ب

اگر رات کو ستر بھلے یا تو ہو تو یہ طریقہ اختیار
کریں اللہ کے تعالیٰ بڑھ گئی ہو تو اس آیت کو روز بروز دم کر لیں۔ اور کہتے ہیں
بار بڑھ کر گمشدہ پر دم کر کے ہر روز نہایت ہدایا دے گا اور کھلایا کریں اور
گمشدہ کو ٹھیسلی میں احتیاط سے رکھیں۔ بیت فریاد یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَلَقَ عَظِيمٌ كَيْسٌ
الَّذِي كَرَّمَ نَشِي وَ اِيَّيْ سَتَفِي مَا كَرَّمَ كَرَامِي اَعْيَادَا
بِاِي كَرَّمَ يَتَا مِنْ السَّنِي لِي الرَجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ

باب الصلاة واسطے نماز و تہجد بہ کثرت دولت کے ہے جو نبی
من الحاجات ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ دست کر کے دو رکعت نماز
پڑھ کر تیس روز پڑھ کر اسے پالیقہ کہتے ہیں۔

قال اللهم تبارک و تعالیٰ جہانہ جن وقت فارغاً پر حجت میم کو
کاغذ سفید یا کپڑہ پر خط صاف لکھ کر مکان ظاہر میں لٹکا دے اور الخیرت
سم پر کر کے ایک مرتبہ آیت مذکورہ پڑھنے کے دو بیان نظر کر کے
اور کسی سے بات نہ کرے جب وہ پڑھیں روز نمازوں کو کتبہ مال و متاع و دست
مجانہ سے محفوظ رکھے۔ روز نمازوں سے پہلے اس کاغذ یا کپڑے کو
کافی ہے۔

نماز حاجت

ذکر تبارک و تعالیٰ میں ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب و دست نہ لینی تو آراہون گزار
کہ جرات ہے جس کی فتح کو پیر ہو۔ جو شخص چار رکعت نماز پڑھے اس ترکیب
سے کہ پہلی رکعت میں بجز سورۃ فاتحہ کے سورہ اخلاص ۱۰ بار دوسری رکعت
میں ۲۰ بار تیسری میں ۲۰ بار چوتھی میں ۳۰ بار اور سلام کے بعد ۵۰
بار اور اسے تین دن سے پڑھنے سے پہلے کبھی پڑھنا شروع نہ کرے۔ دو روز
شربت ۵۰ بار پڑھ کر حضرت عباس سے دعا مانگے۔ پس جو شخص پڑھ کر پورا
بزرگوں میں سے اس نماز کا نام نماز حاجت رکھا ہے۔ اور نیت بھی نماز
حاجت کا کیسے۔ دوسری روایت میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ ہر رکعت میں سورہ شمس پندرہ بار باقی ترکیب وہی ہے۔

ہے کہ تین ہفتہ تک پڑھے۔ یہ نماز بہت بڑبڑ ہے۔

نماز رزق

جو کوئی تنگ دست یا قریب وار ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ نماز
رزق پڑھا کرے وہ یہ ہے۔ دو رکعت نماز نفل قبل نماز فجر کے پڑھے۔
اذن رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے ۱۹ بار۔ **اللہم کفیلنا کفیلنا** کفیلنا
صن یثباتہ ذاکھو القریٰ المسکینینہ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ
فاتحہ کے ۱۰ مرتبہ **صن یثباتہ ذاکھو القریٰ المسکینینہ** پڑھے۔
اس نماز کے پڑھنے سے روزیہ اور مال و دولت ہرگز کم نہیں ہوتی۔

نماز قلب

استخوارہ بزرگوں کا رسول بنا ہے۔ اس سے قلب بھی منور ہوتا
ہے۔ اس کا نام صلوة القلب بھی ہے۔ سوئے وقت و ضرر نہ لیسکی کہ
یا بسم اللہ شریف بجز اکثر آدمی و ضرر کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ سب دل میں
پڑھو۔ زبان سے کوئی بجز حجت روانہ ہو۔ بعد ضرر دو رکعت نماز پر نیت مسلوۃ
القلب پڑھو۔ اول رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ الرحمن سات مرتبہ
دوسری میں سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر سلام و دعا کر کے اپنی قرآن
محلے میں جو کچھ ہوئے والا ہے۔ مجھے اس پر مطلع فرما لیں۔ لیکن یہ سب
شرعاً دل ہی دل میں ہونا چاہئے۔ ایک رات بھی ہوا ہے۔ نہ چاہئے
تو پہلی رات میں ہی سب حال روشنی ہو جائے گا۔ روز دوسری تیسری
رات میں اللہ اللہ فرود عیاں ہوگا۔ اگر اس نماز کو پیشہ دل ہی دل میں
پڑھا کرے تو کبھی روز میں تمام اولیا دیکھے۔ اور قلب منور ہوگا۔ پڑھنے

اس میں نظر آئے گی۔

صلوٰۃ الشفا :- ہر رکعت نماز نفل ادا کریں اور ہر رکعت میں مزید اخلاص و توجہ و تضرع پڑھیں۔ بعد سلام دعا مانگیں۔ اللہم اللہ صبر علیّی کے لئے دعا مانگیں اللہم اس کو صحت و شفا عطا کرے گا۔

آفل نماز اور بار بار دعا مانگنے کے پڑھنے پر ہر رکعت میں اللہ کے بعد یہ دعا پڑھیں: سورہ اخلاص پڑھیں۔ انا للہ جید یوم میں روز اٹھا ہوئے گئے۔

تفصیلاً سے حاجت :- ہر روز سب سے پہلے نماز شام ۴ رکعت پڑھیں۔ اول رکعت میں بعد فاتحہ کے پڑھیں: ہا سورہ اخلاص دو سو بار ۲۰ بار۔ تیسری پڑھیں اور اوروں کو بھی میں چاہیں اور پڑھیں۔ بعد سلام دعا بار درود شریف پڑھیں۔ ۵۰ بار اَسْتَغْفِرُ اللہ سے یعنی میں کُلِّ ذَنْبٍ ذَاکُمْ بِاَلْحَبِ اذ پھر ۵۰ بار اخلاص پڑھیں کہ دعا مانگ سکیں ہر روز پڑھیں۔

نہایت کراہت :- ہر رکعت نماز نفل بعد منسب مزید پڑھا کریں۔ ہر رکعت میں انا علیک اکلوزی بار پڑھیں انا واللہ ہم یوم کے بعد زبان پر تاثیر نہ ہائے گی۔ اور کراہت ظاہر نہ ہوئے گئے۔

عورتوں کے لئے :- جن عورت کے ایام جاری ہوں ہوتے ہوتے ہوں اس نقش کو غن کہہ تریا غن کہری سے لکھ کر عورت کے گھر میں اچھے ایام بند ہو جائیں گے۔

۲۴۰	۲۴۵	۲۴۳
۱۴۰	۲۴۹	۲۴۷
۲۴۶	۲۴۳	۲۴۸

بڑے کفار و کفار و کفار کے گھر میں پانچویں نقش یہ ہے

انان ۹۶	اد اتسل	اتقل ۶۳۳	سلی لقتکم ۲۳۳
۵۲۳	۲۳۲	۵۷۳	۵۲۶
۲۳۲	۶۲۱	۵۲۹	۵۷۵
۵۳۸	۵۷۶	۲۳۲	۶۲۲

اگر کسی عورت کو ہمیشہ خون جاری رہتا ہو تو اس آیت کو لکھ کر گھر میں اندھا جائے۔ اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ اَلْحَمْدُ لِحَاظِهَا فَذِكْرُهَا لِحَاظِهَا وَتَمَّ خَلْقُهَا مِنْ مَّاءٍ دِیَمِ۔ اس آیت کو لکھ کر گھر میں جائے اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لِحَاظِهَا

مخاطفہ قلبی نظر الانسان مبالغہ من ماء

بہار کے حسن انقطاع۔ گیارہ مرتبہ سورہ منزل پڑھ کر گناہ
بنا کر ہر مرتبہ ایک گزہ دیں گے۔ عورت کی کمر میں بانہ میں اندر پانی پرچیں
دم کر کے پلائیں۔

حاصل تمام عمل کا ثبوت کتب معتبرہ سے آج سے لے کر
پارہ ۷۱ اور ۷۲ میں ہے۔ ہر روز صبح صاف کر کے لے کر اور اسے
سے ہونے پشانی تک آپ کے کمر میں بار بار پڑھ کر گناہ مٹانے
اور عورت کی کمر میں اقسام عمل اثر ہے۔

بچہ اگر بیٹ کے اندر سر جاتا ہے تو اس منتر کو لکھ کر بیٹ پر پانچویں
اگر پیدا ہو کر مر جاتا ہے پتے کے گلے میں ڈال دیں۔ تو میں بیٹوں میں
سا چوس اور انصار الوان ایور بیور نسس پس اجران الوار کیوس ۵۵۵

مخاطفہ حاصل : جن عورت کو استقامت مل جائے شکایت یا بچہ
فوت کر جاتا ہے ان عورتوں کے لئے یہ حیرت انگیز ہے اور اگر طریقہ یہ
ہو کہ کسی کی قلم رزخ غفران سے لکھ کر گناہ میں پناہ دیں انشاء اللہ
شکایت دور ہو جائے گی۔

برائے زیادتی شیر (۱۱۱۱)

اس آیت کو روٹی کے کڑے پر لکھ کر دو روزہ میں پانی کرکھلائیں۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ

دیگر برائے زیادتی شیر عورت گائے بھینس بکری کی گون میں لکھ

یا حسین	۴	۵	۶	یا حسین
یا علی	۳	۴	۵	یا علی
یا زین	۲	۳	۴	یا زین

بہار سے نر زینا، شریستہ : اس منتر کو لکھ کر عورت کے
پانی بار میں بانہ میں انشاء اللہ فرزند فرزند پیدا ہوگا۔ آرزو ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ
یا غفور	یا غفور	یا غفور
بِسْمِ اللَّهِ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ
یا غفور	یا غفور	یا غفور

بہار سے بسن بخون جو ستر ماہہ عمل میں آتا ہے
اس نقش کو دم لائیں سے لکھ کر ات کے نیچے بارہ عمل اور ایک

میں ہائے

کر یا چشم پری

دیگر۔ یعنی سے فارغ ہو کر ایک یا دو روزہ کر پھر ایک چھوڑا
 کے کہ تم لگ کر دو اور تم کو بجائے اس کے اندر رکھو اور نائٹ سے کچھ
 اوپر ایک دھانگے میں ہاتھ کر بانڈ ہو۔ اکثر ائمہ صاحب اولاد ہوگی۔



بیزاری خلاء سے ہوتی ہے پیشانی پر ہائے تیار ولادت
 ہوگی۔

ششم منزل
 ۵
 ۴

دیگر برائے درد شکم
 بردہ کو لیدہ دردی شود۔ لغز ایسا است

۲۹۱	۲۸۹	۲۹۳
۲۹۲	۲۹۰	۲۸۸
۲۸۷	۲۹۴	۲۸۹

مقیہ زیاادہ مرنا صدقہ کرے۔

یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض
یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض
یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض
یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض	یا ق ایض

یا ق ایض یا ق ایض یا ق ایض یا ق ایض
 تبض تبض۔ یا ق ایض کہ سن یاد کہ اس
 بیاسری فی ایک تبض ربض گرد

بیاں جھ سورہت کا سر و حانی علاج : بستر ہائے مہترقی
 عالیہ لڑکا اور شوہر کے اگر کسی صورت کو ولادت نہ ہوتی ہو۔ تو اس کو یہ
 نقش کو تیار کیا جائے پر زعفران سے لکھ کر مات پر مٹا۔ پلائے۔ بحکم خدا اولاد
 زریہ پیدا ہوگی۔

صراح بچہ
 سر شیر

شرہ
 سرد مہ

اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو یا گائے بچیں و بھری بچہ نہ دے تو
 تو بیہ تر برتہ جو زاو متھ میں ہو تو اس نقش کو اطہارت لکھ کر کرے

برائے کشادگی و صحت دل خاتر :- لکھ کر یاد پراندے۔

۷۸۶

۲۹۷۲	۱	۸	۲۹۷۳
۷	۲۹۷۴	۲۹۷۵	۲
۲۹۷۱	۶	۳	۲۹۷۸
۳	۲۹۷۷	۲۹۷۶	۵

پھولے پکوں میں

اگر تیرے درد نہیں کھڑا ہو تو یہ نقش لکھ کر یاد پراندے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَلَا اِیْمَانَ لِّکُمْ وَلَا لِّکُمْ
وَلَا اِیْمَانَ لِّکُمْ وَلَا لِّکُمْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

مٹی کھانے کی عادت :- روزانہ میں دو بار پڑھ کر دم کے پانیس۔ جب بھی دودھ پلائیں مٹی دم کر کے پلائیں۔ اس طریقہ سے مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَزْدُمُ مَرْجَمًا

دیکھو جلدی بچوں کے لئے :- دو ہی امراض ہیں والا تو بڑا ہوگا دیا جاتے ہو تو یہ ہے۔ گے میں پتہ اور پکائیں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۲۲۲	۲۲۲۳	۲۲۲۴	۲۲۲۵
۲۲۲۶	۲۲۲۷	۲۲۲۸	۲۲۲۹
۲۲۳۰	۲۲۳۱	۲۲۳۲	۲۲۳۳
۲۲۳۴	۲۲۳۵	۲۲۳۶	۲۲۳۷

دیکھو یہ ہوا گودگا ہونا :- اگر پیدائشی کو چھو یا بہرے تو اس کا علاج لڑا کریں کہ جب گودگا یا بہرے ہو تو بڑی گہری نیند سوجاتے (اس کے سر ہانے کے لئے بیڑھی جابھ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ شفاء کی پہلی آیت کے ٹھیک ٹھیک پڑھیں۔ پڑھنے میں ہر حرف الگ الگ پڑھ جائے۔ یہ عمل چوبہ ماہ برابر جاری رکھیں۔ گوشت شہ ہو کہ نانہ نہ ہو پائے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

جیکر سوکھے کے سر میں لڑکوں کو روغن تلخ پر اغلاستین یا پڑھ کر کے تمام جسم پر صابن و شام بالش کریں۔

دیکھو جو پتہ کمزور ہو یہ نقش زعفران سے لکھ کر چاندی کے توڑ میں رکھ کر

بچے کے گلے میں ڈالنے سے جسکے ذرا آواز آتا ہوگا پتھر پر شہہ۔ م۔

۹۹	۱۰۴	۹۷
۳۸	۱۰۰	۱۰۲
۱۰۳	۹۶	۱۰۱



برائے دند کر کے کوک، وودو، وکلم، ورمکے، لفظوں پر د۔

۵	۱۱	۲	۱۱
۱۰	۳	۱۳	۸
۱۵	۵	۱۲	۱
۳	۹	۷	۱۳



دیگر مہمان یا بیکار کے مرض کے لئے اگر کسی بچہ کو پڑھانے سے آتش زد
ورثہ نہ کو یہ عمل کرے۔ ایک کاغذ کے پرے پر یہ نام لکھیں منور و زین
تارون امانہ شہزادہ اہلس۔ پلنگ کے نیچے رکھ کر اس پلنگ پر بیٹھ کر
چلاؤ۔ وقت عروق آفتاب سے ایک گھنٹہ تک ہے یہ ترکیب چار سینے
اور چار منگول تک کرنا ہر روز یا ہر مہینہ ہوگا۔ جب بچہ
شہلا لکھیں آواز آسوں کہ بیٹھ کر بیٹھ کر سے نکال کر بیٹھ لیاں مار کر
کسی نیند بگڑ میں پانچا نہیں گاڑ دیا کرے۔

دیگر ۱۔ آواز کے دن یہ لقمہ لکھ کر مر لقمہ کے گلے میں
ڈال دیں۔

۱۱	۷۸۶	۲۲۶	
یا سولہ	یا ہومن	یا سفیظ	یا خور
۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۵	۴	۵	۱۰

بیرا شے چھینکے۔ اس آفتن کو لکھ کر باہارت از مفران د
عرق کباب سے لکھ کر پتھر کے گلے میں ڈال دے۔ صحت ہو جانے پر

حضرت سید
سلمان علیہ الرحمہ
دلالت۔

۱۰	۵	۱۲	۱۵
۳	۱۶	۳۰	۶
۱۲	۲	۷	۱۲
۸	۱۱	۴	۱

دیگر

سورۃ فاتحہ کا تیسرا لکھ گلے میں ڈالے اللہ اراشد بچہ عیسیٰ سے
لغزادہ ہے گا۔ اور اگر شکلی بھی تو کم
یہ خوب لقمہ آئندہ منو میرا ہے۔

ذہرا ہمارے کے لئے

اگر کوئی کوئی لڑائی کے لئے ہوا تو اس کا ایک غولہ بنا کر اس پر گیارہ بار یہ آیت خیرین پڑھ کر دم کر دے۔
 وَمَا خَلَقْتُكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَفِيهَا نَبِيٌّ اَكْبَرُكُمْ وَفِيهَا خَيْرٌ مِّنْكُمْ
 تَاَسْرًا اَنْخَاي

اور غولہ کو پختہ منٹ کھٹے ہوئے پتھر پر طین میں روز متواتر کر میں یکدم
 پڑھا کر اور اس کو بھنکر کھا لے۔

بہارِ عَمَّ سَنَ هَرِيْبِ جَبُو - تھوڑی دوپ گد سسر اور تھوڑا سا کھانے کا ٹک سے کہ دو دن کو خاکر جینا پر لاکر چینی سے پکا کر روز سے جیسے کی طرح چینی بھولے ڈھک ارا ہے لار سے پختہ ہوا میں کئی لہر اتر کر روئیں پڑ جائے گا۔ ۱۲ روز وہ ہے۔

جب پیل پانی کھانا پی کہاں کی رٹ لگائے حلق کو پلہ ہے کر وہ بھی سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے جب تک وہ بولتا ہے یہ بھی پڑھتا رہے۔ میں چومے ایک بار سے ہوسے پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرے ذہرا تر جائے گا۔

تو بیان کے لئے ہے۔ اگر شریف ۱۲ بار پڑھ کر دم کر لیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ	رَبِّ الْعَالَمِينَ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
مَا لَبِثَ	يَوْمًا	الَّذِيْنَ	كُنَّا فِيْهِ
رَاغِبًا	اِلَيْهَا	وَالَّذِيْنَ	كُنَّا فِيْهِ
عِيْرًا	مِّنْهَا	وَالَّذِيْنَ	كُنَّا فِيْهِ

تو دعا آئے کے لئے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کثر پڑھ کر
 کسی بچے کو کراچ لکھی ہو یا عقلمی غار میں پڑا تو اس نقش کو
 کر لکھ کر سات پھاڑے۔ حکم قدا تھا ہو۔

۲۶۲	۲۵۸	۲۶۵
۲۶۳	۲۶۴	۲۶۰
۲۵۹	۲۶۶	۲۶۱

گزارش :- عامل حضرت یا جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں ان سے گزارش ہے کہ وارثہ اشجار بیکر لوی کے فرسخ درستی کیلئے دنا و کریں۔ تاکہ اس طرح کی درستی اشاعت سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاسکے۔ مناجات قادری

نیم کی خوشی سے بھاریں۔ ایک سفید میاز سے کرالو شریفین ۱۱ بار پڑھ کر دم کر کے
کلمے میں ڈال دیں۔ تین دن متواتر کرنے کے بعد شفا ہوگی۔ گناہیں تو پوری ہیں
سفید ہوگا

علم مسائب جہا شرفے کا :- غوم کی پانچ رات سے شروع
کریں بعد نماز شمار ۸۸ بار اقل و آخر درود شریفین ۷۷ بار روزانہ ۹ آیت
شب عاشورہ تک پڑھیں بعد میں کے روزانہ وارح کے ساتھ بغیر وظیفہ
۱۱ بار شمار یا کسی ایک وقت پڑھیں۔ آیت کی تہہ پر دم کر کے ۱۱ بار پڑھیں
ایں است۔ و ما من میت الا ما میت و لیکن اللہ سر محانا یہ پہلی
الومت میں جنتہ فیلا حرمنا۔ جز وقت اعلان آوے تین بار پڑھ
کر لائے واسے تو ایک خط پڑھیں اور کہو میں کریں۔ اگر گزیرہ کا نام اچھے کر اس پر
تین بار پڑھ کر کے پلاویں یا تلو تلو آدسے تو اس پر بھی دم کر کے
بنادیں۔ انشاء اللہ شفا ہوگا۔

دیکھو :- غوم کی پانچ رات سے دسویں شریف تک بعد نماز شمار
اگر شی بلا کر ۸۸ بار پڑھیں روکے انا ہو جائے گی۔ دمایر ہے۔
وفا سے میری رائد سے شریفین و لا ین الله
سما قریشی المؤمنین منہ بکلا احتسنا
پڑھ کر دہائی تھیں پر دم کر لیا کریں۔ یا تلو تلو سات مرتبہ دم کر کے رضی
کر بلا تین دن بتیلی پر دم کر کے باریں شریف ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ

مرین اگر باہر ہو تو اس کے کان میں کہہ دیں کہ تھان اکتلیا آدسے
دسہے ہیں۔ لہر دک جائے گا جس وقت تھلیا آدسے تو اس پر سات
مرتبہ دم کر کے آگ میں ڈال دیں۔ مرین اچھا ہوگا۔

شفا (امراض کے لئے)

درد و شفا :- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰی اٰلِ
ہی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم
ہی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

۹۹ امراض کا علاج ہے۔ غاس کر وچ و غم کا سفید شباب
تقریبی کی اشرف صاحب دظلا
تتو کیب :- صبح میں روزانہ ۱۱ بار اقل و آخر درود شریف پڑھ
کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول و لا قوۃ الا باللہ لا
ملجاء الا الیہ لا انا و لا ائینہ لا

پیٹ میں کیڑا یا کدو دانہ

پوری سورۃ تین بار
پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہار سنت پلائیں۔ اور دن میں کسی وقت و تقریباً
ہی سورہ کو پڑھ کر پیٹ میں دم کر دیں۔ (تتو انزل اداں کریں) انشاء اللہ
پیٹ کے کیڑے یا کدو دانے نغم ہو جائیں گے۔

چوٹی کی مشہوری پر زعفران کی
گلابی دھندلے اور روزانہ

برائے دفع کالی کھانسی

یا حنیف یا حنیف یا حنیف یا حنیف یا حنیف

قص قص قص

مانات الماع



برائے سر و شہنی چشمہ : تین مرتبہ روزانہ پانی میں ملا کر
دہم کر کے اٹھ سواں کر لیا کریں۔

تَكُنْ فَنَأْتِكَ عِيَا لَكَ تَجْمُرُكَ أَيْدِي مِائِيكَ



جس شخص کو ضعف یا عورت ہو یا اس کی آنکھ میں کوئی بیماری ہو تو
ہر ماہ میں پہلی یا دوسری تیسری رات کو چاند دیکھے اور چاند نظر آئے
پہلے وہ اپنے ہاتھ کی انگلی دونوں آنکھوں پر پھیرا جائے اور ازل سورۃ فاتحہ
کہے یا بسم اللہ آیتین کے دس مرتبہ پڑھے۔ پھر سورۃ اخلاص پڑھے اور
کے تین بار پڑھے پھر رات و دن یہ کلمات کہے۔ شفاء من کل داء
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَنَّ
دیگر امراض چشم سے شفا ہونی۔



بیتخاسا کے لئے ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْمَلِیْکِ الْبَلْبَلِیِّ الْمَعْمُورِ اِنَّ الْاَسْمَاءَ الْحُسْنٰی کَاخْبَرٌ لِّکُمْ

بیتخاسا کے لئے ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْمَلِیْکِ الْبَلْبَلِیِّ الْمَعْمُورِ اِنَّ الْاَسْمَاءَ الْحُسْنٰی کَاخْبَرٌ لِّکُمْ



بادی کے بخار میں یا نامہ کوئی بجز کاذب سے
پیر کی گولی یا موی کاغذ پر لکھ کر گے میں ڈال دیں یہ بخت رزق پلے
تو آد کر دفرہ کریں۔



برائے تو اس کا مرض بخار آدنی ہر
پڑھ کر کے سر میں کر



ہر قسم کے بخار کے لئے گونین بانڈیوں۔ روزانہ بخار کے درمیان
شبان ہر دو دن سے صبح کے نام فاتحہ دین۔ اثنار اللہ شفا ہوگا۔



۴۸۶

۳۲۲	۲۲۵	۲۲۱	۲۲۵
۲۲۰	۲۲۶	۲۲۱	۲۲۶
۲۲۵	۲۲۳	۲۲۲	۲۲۰
۲۲۲	۲۲۹	۲۲۸	۲۲۲

برائے دفع تپ دل و سرخا :۔ ازل و بائیں ہاتھ کے گٹھ پر
بانڈیوں دوسرے روز کھول کر وہ اپنے ہاتھ کے گٹھ پر بانڈیوں اسی وقت چھینیں

پہلے روز پانچ تھا۔ تیسرے روز گے میں بانٹے۔ چربے ہے نقشہ ہے۔

۷۸۶

۳۰	۴۲	۳۶	۳۳
۳۵	۲۲	۳۹	۳۳
۲۵	۳۸	۴۱	۳۸
۲۲	۲۷	۳۶	۲۷

دور دور کے کڑی کڑی پرانے دنوں میں کس کس کے ہونے سے لفظ آتے گا چاہا جائے اور وہ کڑی کس وقت کے مریض کے لئے ہیں ڈال دیا جائے۔ اگر بیماری تیسرے روز سے کم نہیں ہو پتی ہے تو مرض چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر عمل رہا شخص کر سکتا ہے۔ جیسے سوالا کہ نمونہ کی ڈکواتی ہے۔

میعادی ثابتیاد یا صوری جہرا بغاں میں

نورسہ اللہ الرحمن الرحیم
یا حقیظ یا حقیظ یا حقیظ
یا شانی یا شانی یا شانی
سوریا صلیح تقداد

پسلی چلنا یا تہ نہیہ :- یعنی کی طسریا پر زنگان سے کر
کر ایک اور گھونٹ دودھ سے دھو کر بھی دھو پڑیں۔ احتیاطاً تین دن

نک پلا میں تاکہ نمونہ کا اثر لکن ختم ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یا حقیظ یا حقیظ یا حقیظ
یا شانی یا شانی یا شانی
یا اللہم اللہم

Sharkia Mall, Oshana

کان کا دسراں - سورہہ علی میں مرتبہ پڑھ کر پانی اور دھو میں
دم کر کے پلائیں۔ شفا ہوگا

اگر کان میں کوئی ہرن ہر یا کم سنا ہو تو ابارہ کے تیل پر اور
کسی بیڑہ کہ تھیل پر اول دآخر ۳-۲- مرتبہ اور دشرین پڑھ کر پانچ
مرتبہ یا تسبیح پڑھ کر دم کر کے کان میں ڈال کریں

ھو طرح کے دسراں :- گھیا ہو یا کسی بھی قسم کے درد کو بہترین
طرح ہے۔ ساعدہ رنگا کہ نکی یا مات پٹکی اگر لپٹا ہے لڑکے کہ ہر
کرت کری یا کہیں پا۔ پڑھ کر تھیل میں ملا کر دنی بڑا شش کریں۔ دیکھیہ
اللہ تکر کفقد النکل و لوز مشاکہ کہ جتھلکہ شاکت لا

اول دآخر دشرین میں تین بار پڑھیں انشاء اللہ صحت ہوگی
تیل کسی بھی قسم کا ہو۔ اللہھہ انت البایط دانا البویط لا

الْبَائِبَةُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اتَّيْلُ الشَّيْءِ كَرِهِي كَرِهِي كَرِهِي كَرِهِي كَرِهِي
بِأَمْرِ رَسُولِي -

دوطن	موطنیل
موطنیل	دوطن

درد کا چیک کر کے اگر یا اچھی رکھ کر ۱۰ بار یا ۱۰ بار دے اور اذیبتک شتم
 دم کر دیں۔ اذیبتک شتم دور شریف -
 سوز کے ساتھ چاندی اور سہیت کا دوسرا -
 پاک کر تین سو ایک اسی ۳۸۱ مرتبہ تک یا اپنی پر دم کر کے اذیبتک
 آخر دور شریف ۱۲ بار مرتبہ پڑھیں درد دل جگائیں کریں تک یا اپنی
 تین اس درج سے کہ مناسب ہے کہ یہ عمل ہر روز کے لئے مفید ہے اگر
 ہے ہیں مشکوٰۃ میں بیعت مناسب ہو عمل میں لائیں آیت یہ ہے -
 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم کے درد کے واسطے مفید ہے۔ اس کی مذکورہ
 آذیبتک ہی ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ چاندی کا پندرہ تاریخ سے ۱۹ تاریخ
 تک روزانہ ۱۰ بار بیزبرسم اللہ پڑھا کرینا اور روزانہ پانی کا پیالہ پیجیے
 سنتے دیکھ میں بدبوشہ اس پانی کی جاکریں کہ شرط یہ ہے روزانہ ایک گونٹ
 پانی کہ وہ لگا کریں ہمدردی کے روزہ سورۃ تین مرتبہ بیزبرسم اللہ پڑھ کر دم کر
 درد دور ہوگا۔

اگر کسی شخص میں درد ہو تو اس کو پراپنا نام لکھ کر اس کا کپڑے
 لٹا دینا شفا دینا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُ قَدِ مَسَّكَ مِنْ شَيْءٍ أَحَدًا أَحَدًا

درد دوسرے
 جس کسی کے سر میں درد ہو یا شقیقہ ہو تو
 اس نقش کو طوں آفتاب سے تیل لگا کر

یا شافی	تبت یا اذیبتک
یا بدوح	یا بدوح

درد سرد و جھاتی درد کے لئے مجرب ہے۔

برائے درد نیم سرہ:	
اللہ ۳	اللہ ۲
اللہ ۲	اللہ مسح
اللہ ۱	اللہ ۳

درد سرد و جھاتی کسی بھی سبب سے ہوا اس نقش کے پتھر سے روزانہ
 دو گنا اور تین روز اس
 نقش کو دھو کر پڑھیں

اللہ	اللہ	اللہ
مسح	مسح	مسح
علی	علی	علی

دو سو کے لئے سات مرتبہ آیت لکھی پڑھ کر دم کرے۔ دلخ ہو۔

دیکھو :- دس مرتبہ پڑھ کر پیشانی میں چھوئے۔ اول والا فر
دو در شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یا شافی یا کافی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا عیط یا واسع
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا س یا واسع

شفا سے مراد اس کا ہوا و کوری اس آیت شریفہ کے ساتھ
دعوت سے کھڑے ہو کر کہیں نہیں رکھ دیں۔ شفا ہوگی آیت یہ ہے۔
اِنَّا نَحْنُ مَحْضٰی الْمُرْتَبٰی وَنَاکُتُبُ مَا قُلْتُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
وَکُلُّ شَیْءٍ اَحْصٰی بِنُزُلِنِ اِلَیْنا مِنْ سَمٰوٰتٍ ۝

نیسے موت کے اکیس ستارے کہ گنوا بنا کر سورہ المد ایک دن پڑھ
کر اس میں نو گز لگائیں۔ اور ہمارے گلے میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ
صحت ہوگی مفید ہے۔ اس نقش کو گلے میں ڈالیں۔


۷۸۶

۸	۳۶۷۳	۳۶۷۸	۱
۳۶۷۷	۲	۷	۳۶۷۵
۲	۳۶۸۰	۳۶۷۶	۶
۳۶۷۴	۵	۳	۳۶۷۹

دل کی گھبراہٹ کے لئے :- یہ تو فرمے ہیں

قلب پر ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
رَقِیْتُ عَیْنِیْ فَاغْثْ لِیْ عَیْنِیْ وَرَقِیْتُ لَیْلِیْ فَاغْثْ لِیْ لَیْلِیْ

غایت کردہ حضرت مولیٰ عبدالقادر جلال پور کا صاحب
اقتدار قلب و گھبراہٹ کو کم کرنے کا یہ ہمارے کر کے
یہاں لایا اور اس کے عین ہے۔



دل کی گھبراہٹ کے واسطے۔ دو تو فرمیں۔ ایک پانی میں گول
کر پلائیں اور ایک گلے میں پہنا دیں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۷

۳۸۸۱	۳۸۸۳	۳۸۸۷	۳۸۸۹
۳۸۹۱	۳۸۹۵	۳۸۹۰	۳۸۹۵
۳۸۹۶	۳۸۹۳	۳۸۹۲	۳۸۹۹
۳۸۹۲	۳۸۹۸	۳۸۹۷	۳۸۹۸

برائے جلد دل و جنت دلخواگی و بیخون مران وغیر ہاتھ میں ہاتھ اور دھو کر پینے۔

۲۷۳	۲۷۸	۲۸۱	۲۶۷
۲۸۰	۲۶۸	۲۷۲	۲۷۹
۲۶۹	۲۸۳	۲۷۶	۲۷۲
۲۷۷	۲۷۱	۲۷۷	۲۸۲

وَتَتَّقِينَ مِنَ اللَّهِ آيَاتٍ مَّا هُوَ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُؤْتِيَكُمْ

لَهُمْ فِيهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

برائے بھائی و خول دل و تپاک تھلی و دست و پستی و چہن امراتن جمانے۔
 بسم اللہ الرحمن الرحیم پس خوردہ امیر المؤمنین علی مشیر عا را او بخیر معنی
 دنی اند علیہ وسلم خوردہ مردم خوردہ۔ زعفران سے لگو کر پے شفا
 ہے۔

برائے دنی و دہیٹ تبہن پیشاب چہ ہوا اس نقش کو لگو کر یا میں
 دان میں بانہ سے۔ دروزی میں بھی بانہ سے۔ مین سے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۷	۱	۳۸
۳	۵	۳۲
۲	۳	۴

اگر کسی کا اسٹ لٹی گیا ہو تو یاد منور اس نقش کو لگو کر سات پر ہاتھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یا بیدارح طلبہ سجدت
 یا بیدارح طلبہ سجدت
 یا بیدارح طلبہ سجدت

د	ح	ب	ا
ی	ا	د	ح
۱۷	۷	۳	۱

سات لٹی لٹی ہو تو یہ نقش لگو کر

پیریٹ کا دروزی۔۔۔ درگو نیز دروزی شود نقش میں است

۲۷۱	۲۷۶	۲۹۲
۲۷۲	۲۹۰	۲۸۸
۲۸۶	۲۹۳	۲۸۹

نیک راحت میں شفا و زعفران و
 حلاب کے سیاہی سے انا کی کٹھی
 برائے پیش

کہ قلم بنا کر قلم رو ہو کر دس نقش لگو کر ایک ہر ایض کے کر میں بانہ سے
 باقی سین روز صبح و شام کو پڑائے۔ نقش آمیزہ صخر میں ہے۔

۷۸۶

یا احد	۶	یا احد	۱
یا علی	۵	۷	۸
۱۰	۱۱	۱	۶
بسم اللہ	یا بجد	۵	۲



اس تویذ کو کھد کر گریں یا نذ سے بجز یہ ہے۔


سیدہ امینہ	۱۰ ح	۹۲
ح	ب	۷

توتیت با حتمہ
 جس کی آیت ہائے کزود ہرہ توتیا حتمہ نہ
 ہوتی ہے یا بھوک دگنی ہو یا پیٹ میں
 درد رہتا ہو فرضاً یہ کہ پیٹ میں کوئی بیماری ہو یہ آتش جوات جسم یا اوتار
 کو کھد کر بوم جاوے کہے گریں یا نہیں کہ ہر لوت گوی۔ م بعد کما۔ نہ۔ کے
 نام پر کم از کم ایک گلابی ضرور دے گئے۔ انشاء اللہ صحت ہو۔ (زمخشری کے)

۱۰۶	۱۱۹	۱۱۶	۱۰۶
۱۱۲	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۷
۱۱۱	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۱
۱۱۵	۱۱۰	۱۰۹	۱۱۰
ح	ح	ح	ح

یو ایسیر زنی ہو یا اادی۔ یہوں کی ایک ٹیکہ پار شو لگ دین اس پر
 پڑ کالی روشنائی سے یہ نقش کھد کر صبح چہار سہ لکھائیں۔ اسی طرح سنا
 دن برابر دہرا کرے بلکہ نماز سنا ہوں۔

۷۸۶



پانچ سو سے آٹھ سو تک ہر روز پڑھئے۔ انشاء اللہ
 یو ایسیر جانی ہوے گی۔ پانچ سو سے بسن پڑھیں۔ پانچ سو میں پڑھیں۔
 کر کوفی بریزنی بیرون شرعاً بزرگ است تو پیروں شو
 انشاء اللہ



اگر کسی کو یو ایسیر ہو تو کچھ پانی لیا استنجا بچا لے اور اس پر یہ کلام
 دم کرے اور پھر استنجا لے۔ یو ایسیر زنی ہو
 درش زودش کون کن درش در کا درش ۱۰۰ درش
 زنبان کادرش جو جان کر نہ کہے درش اس کا خانمان ہو



بنایت غلص حکیم محمد صاحب ان کو بھرت مولانا بشارت کریم
 گڑھوں در چنار سے شہرہ میں لانا۔ یو ایسیر کی خوبی کے لئے جو سب سے
 توتو و تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ ایک بار پھر مات بار بسم اللہ انشاء اللہ

پڑھ کر کتب دست پر دم کر دے فائدہ بڑگا۔ چالیس یوم تک پڑھا ہے
ایک یا دو وقت۔ (صبح کی نماز کے بعد بہتر ہے۔)


یو اسی روزی و بادی۔ اس نعت کو کہ کر گے میں باندھے۔

۷۸۶

یا شافع	یا شافع	یا شافع
یا شافع	یا شافع	یا شافع
یا شافع	یا شافع	یا شافع

جہ لوگوں کا نام سیم سے شروع ہوتا جو اس سے روزانہ کچھ پڑھے
انہیں اور حج کرے کہ ایک چاندنی کا چھلہ بنا سکیں۔ اس کے بعد بقیہ حج
کے ایام کیلئے حج کے مزہ میں ڈال کر مست بند کر کے قربانی کریں۔
بعد قربانی اس کے منہ سے نکال کر اس میں پہنا بھی۔ خواہ سب روزی ہوگی

برائے یو اسیہ اس توڑ کو بوز چاروشنبہ گئے اور اسی روز سوا
میر شریفی بخت خواجہ کے نام نیا ذکر کے نعت کر دے۔ کمال دست ہے
میں روم جانہ کر کے بازے۔ انشاء اللہ یو اسیہ روزی بادی روزی نہ ہوگا



اگر بیٹ پڑھ جائے تو اہ
سفر کے آخری چار شنبہ کو تک مسرت
میں یا ضرر ظہر مل سو اس نعت کو کہ کر
پرٹی پر اندر۔ انشاء اللہ مشکل محبت
ہوگی۔ نعت یہ ہے ←

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا شَافِعِي يَا كَالِي

برائے طحال :-
میر چا تو چھری یا استرہ کی: حمار پر
گاہ مرتبہ نعت پڑھے اول
فانحرقات مسرت یا ضرر و ضرریت بعد اذان میں پڑھا ستہ کو طحال کی جگر پر
آہستہ آہستہ چند داہند خط کیلئے۔ انشاء اللہ قحالی کے یوم میں محبت ہوگی

حیگر :-
کتواری لڑکی کا آہ ہوا مسرت مسرت کے کر اور
بہت کر اہیں مسرت مسرت کے سرورں جھاڑ۔ مسرت کر ایک آری طحال پر
پکڑے سود۔ پر خود عمل پڑھتا ہے۔ مسرت کٹ جائے گا۔ چند بار
کرے انشاء اللہ کئی مرلین کو مسرت ہوگی۔ عمل یہ ہے۔
بروت باکھا کائے باگھا بزوش کائے تقطع ذابیرا مکتوفہ
الذین ظلموا و انزلنا اللہ سرت العالمین

برائے تپ لڑکھ مرگی :-
پیسلی کے پتہ پر لکھ
کر دن میں تین مرتبہ
تپ کے مرلین کو چٹائیں۔ انشاء اللہ ایک روز میں وئی ہوگی اور مرگی

دالوں کو سفید مرنے کے خون سے پھیل کے پیش پر لکھ کر ریشم کے تار
میں بانٹیں انشاء اللہ صحت ہو۔ قریب ہے۔ نقش یہ ہے۔

ع
ع
ع

برائے دفع حجاب
مردہ ذیل نقش کو تحریر کر کے
کر لگے ہیں ڈالیں گے تو حجاب نہیں ہے۔ اور اگر کئی نبی تو بہت
کم۔ مجرب وہ نہیں ہے۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ	عَلَيْهِمْ	وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُ
أَنْقَضَتْ عَلَيْهِمْ	أَيُّهَاكَ تَعَسَبًا	عَبْدُ الْمُضْرَبِ
تَوَهُّدِ الدِّينِ	رَافِعًا نَا	أَمِينُ بِنَا اللَّهُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ	أَمِينُ بِنَا اللَّهُ	أَمِينُ بِنَا اللَّهُ

نقش اور دیگر تمام بیماریوں کے واسطے سورۃ فاتحہ کا یہ نقش
توزین باکرہ ارد میں بانٹیں یا لگے ہیں ڈالیں۔ آمین آئندہ صحت ہوگی

بِسْمِ اللَّهِ	بِسْمِ اللَّهِ	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	مَا لِي	بِسْمِ اللَّهِ
رَافِعًا نَا	أَمِينُ بِنَا اللَّهُ	أَمِينُ بِنَا اللَّهُ
عَبْدُ الْمُضْرَبِ	عَلَيْهِمْ	رَافِعًا نَا

سورہ واسطہ والی
ہنت بار اول ر
آز درود شریف رٹا ہر روز کچھ (دل) خواہدہ میج رشام ارشش
کریں۔

برائے دفع ہندی پیشاب
اس نقش کو لکھ کر رٹا
دیں۔ پیشاب جاری
ہر جا۔ مرعین خواہ دوی ہو یا جائز۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۲۱	ب	دعوم
درہم	ح	۸
کفنا	۲	۸

دیکھو اگر پیشاب بند ہو تو اس کی ٹوکنا ہے کہ اگر کسی کے
مشق یہ سلوم کرنا ہو کہ پیشاب بند ہے تو اس ترکیب کو ضرور کرے

روز اتر جا آ رہے گا۔ واسطے اس کے پختہ کی پختہ پر کچھ عطر سے
انہیں ہاتھ کی پختہ کے پختہ پر کچھ عطر سے واسطے پیر پر عطر سے
انہیں پیر پر عطر سے روشتاں سے کچھ پیشاب ہونے پر فوراً مساک
روز بار بار پیشاب ہو آ رہے گا۔

پراسے مسلمان منی

اس دعا کو سات مرتبہ قاصر شہید
باخبریت ایمان روم کر کے
ترجیح و خرام سے انشاء اللہ یہ دعا پڑھ کر
رُزْقِن لَكَ مِنْ سُبِّ الشَّكْرَاتِ مِنَ النَّبَاءِ وَالْبَيْتِ فِي النَّبَاتِ
الْحَطِيَّةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْوَقْفَةِ وَالْمَغْيِلِ الْمُرْمَةِ وَالْأَلْفَاظِ
وَأَعْرَبْتَ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَأَى اللَّهُ عَمَلَهُ خَيْرِ النَّاسِ

پراسے حصول نعمت

بوتھنر جہد کی نماز کے بعد تورا
دفعہ پڑھے۔ پھر مرد و سود و غیر پڑھا کرے۔ اس کے پڑھنے سے کسی کو
بحتاج نہ ہو۔ اور اس کا تسر نہ آنا چاہئے گا۔ اور بعض جتے ہیں کہ
ایک جہد سے دوسرے جہد تک منی ہو جائے گا۔

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا مُبْتَلِيَّ يَا مُجِيْبُ دُعَائِ الْمُتَضَرِّعِيْنَ
يَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْفِقْ بِحَقِّكَ لِيْ سَعَةً خَيْرًا وَرِزْقًا
وَرِزْقًا خَيْرًا غَيْرَ مَرْتَبِيَّتِكَ رَأْسِيَّ بِفَضْلِكَ وَسَعَتِكَ

سَوَاكَ بِمَرْتَبَتِيَّ يَا رَحِيْمَ الرَّحِيْمِيْنَ

پراسے رحمت

اگر کوئی شخص جلالی کی رحمت سے دیدار
چاہے تو تین روز تک ہر نماز
سج کیا گناہوں پر دعا سے تسنوت اور درمیان میں ایک سو ایک بار دو
شربت پڑھ کر دروزن گاڑوں میں دم کر دینا یا عیاضات یا گیارہ روز تک
۱۴۵ روز شفا ہوگی۔

پراسے رحمت

اگر کوئی شخص رحمت سے دیدار
چاہے تو تین روز تک ہر نماز
سج کیا گناہوں پر دعا سے تسنوت اور درمیان میں ایک سو ایک بار دو
شربت پڑھ کر دروزن گاڑوں میں دم کر دینا یا عیاضات یا گیارہ روز تک
۱۴۵ روز شفا ہوگی۔

سحر یا جادو کا اثر باطل کرنے کے لئے

ایک دعوات منی کا ایک گول بنا کر اس پر دھانے سفی سات
بار پڑھ کر آگ میں ڈال دیں صبح شروع ہو جائے تو شام تین ٹوٹ
وے کر امید فودہ کو لائیں انشاء اللہ تین روز میں شرف آ رہے گا۔

دعا کے تسبیحیہ

اے اللہ! اگر تیرے دل میں قرآن آپ پلے تو زمانہ مفقود ہے۔ اس لئے اس دعا سے
کلی ایک دربان پاؤں رکھے تیرے ذمے کرے تو سن وجود موجود بارگاہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں گیسو ہوتے۔

بہری عادت پھرانے کے لئے
شراب یا قمار بازی

بہرہ ہزاروں کی قسم کی شراب عادت اور کسی دوسرے شخص کی عادت پھرا کر بدنامی پلا دیا کریں۔ امام علیؑ فرماتے ہیں۔

یا علیؑ! ہم کیا کرتے ہیں یا حبیب یا سقیب یا ذبیح
یا حفیظ یا حنیف یا سرفراز یا ساجد
(اے!۔ جو ان میں سے کسی کو سہوتا ہے)

اگر کوئی شخص وطن سے دور غربت میں پڑا ہو اور وطن کے لئے مزد پنا ہوا اور کوئی سامان وطن ہانے کا نہ ہو تو صبح کی نماز کے بعد ۹۹ مرتب اللھم آخر بخیر فی منہج صحتہ پڑھا کرے تو پانسے نو دین جاسے گا۔ غیب سے بدولت ہوگا کم از کم ۲۰ روئے مل کرے تب دینی لازمت کے لئے بھی یہ عمل بہتر ہے۔

زیارت بزرگان دین
جس مزار پر پڑھتے روئے مبارک

صاحب مزار کی خواب میں
یا میں کرے۔ **اللہ یتبعنا من بنی القبرین** میں
یا پانچ روئے تک پڑھے۔

درویشی کی برکت سے کل بزرگوں اور سرکار داروں کا عالم

سبھی اللہ علیہ وسلم کے مجالس اقدس میں رسائی ہوتی ہے۔

اللہ شہرہ عجل کے شہرہ ذی بکرت علی و سیدنا منہج صحتہ
تسبیح الاھل صحابہ المنزلیۃ المتعلیٰ و الغرودج و ذرا
السننہ و ذرا من جہاتک الثمین بنی الھجری الادی
ذالہ و اصحابہ و الانبیاء و الابرار و انبیاء و الصالحین
جہدنا ۷۲ مرتبہ ہر روز ۷۲ بار پڑھا کریں۔

چندری یا زہر باد کا مریض کے لئے

مسئلہ: **تو لا یمن الوب الزمیر** امتداد الیوم
ایہا الحجیر مؤمن

مندرجہ بالا آیت پڑھ کر ایک گ لگائیں۔ اسی طرح کیا رہے
لگائیں۔ کل نماز سے مرتبہ پڑھنا ہوا۔ دماغ سفید کے لڑائیوں اور بھاری
کی گردن میں ڈالیں۔

کشف القبور
جب کسی بزرگ کے مزار پر چار تو تسبیح کی

طرح پشت کر کے اس طرح پڑھے کہ صاحب
مزار کے سینے کے سامنے ہو۔ پھر سات بار درود شریف پڑھو اور ایک
مرتبہ اللہ شریف۔ سات مرتبہ اللھم التکاثر پڑھ کر سو مرتبہ **انا لله**

زیارت حضرت خضر علیہ السلام

بوقت شب پھر گزشتہ برکت سے دریا روان ہر دریا صوفیہ و الفی
حضرت عبد بظہارت تمام بخواند۔ حضرت خضر علیہ السلام راہ پی نما ہر چہ خواہ
الجور آید۔

آب حیات

نیم جان سودے گفتگو کرنا ہو تو ایک
سے یہ اسم علی تم سے کہیں یا کوی پھر اس کو بدمرہ ہر سکر و حواریں
(آب اسم از من نہ ہونے پر عرق گلاب سے دھوئیں) پھر ایک سا ہزار مرتبہ
اسم مذکور پڑھ کر دم کر دیں اور یا حق یا تو کم یا علی المولیٰ فلان مرد و نژاد
شود۔ ہر مرتبہ کہیں۔ نیم جان سرہ جس کی زبیاں بند پڑ گئی ہے اور جاں بلیب
ہے التار اللہ کچھ عزم کے لئے ہوش میں آجائے گا اور باتیں کریگا۔

برے دفع چوہا :- (کیٹ دسکان کے واسطے)

ایہ کہ درندہ ہر چہ اگر مرثہ دفع کنندہ۔ لفظش ایس است۔

۷۸۶

۳	ح	ع	ب
	و	۲۲	۵
ا	ا	ا	س
ا	ر	ح	صلہ

اسٹی سنال کے گناہ معاف

درد شریف نمینہ
الطالین ورتن القایا

یہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار در عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کہ فرمایا کہ حسب ذیل درد و شریفین بعد نماز عصر تیرہ کے واپس بل اسے
کہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ پڑھے تو اسٹی سنال کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسکی
ریکت سے بخش دیا ہے۔ ۸۰ مرتبہ پڑھے۔ حضرت شیخ کی اجازت سے
اللہم کن علی سعید و کن علی الایمانی و کن علی الایمانی و کن علی الایمانی

ہر روز جو کسی وقت اسی مرتبہ یہ درد شریف پڑھے تو اسٹی سنال
کی گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ درد شریف یہ ہے۔

اللہم کن علی سعید و کن علی الایمانی و کن علی الایمانی و کن علی الایمانی

برائے حصار

انگشت شہادت کے اشارے سر کے
اگر کریں اور پڑھتے رہیں۔ اناں و آخر
تیس مرتبہ درد شریف در میان میں دفعیہ دعا پڑھیں صبح و شام یا ہر وقت
خواہ
یا حافظ یا قیظ یا نامہ یا قیظ یا قیظ یا قیظ یا قیظ یا قیظ
بسم اللہ پیش من جو مصطفیٰ پشت من علی الام کے سر میں کے گناہ سناؤں
سرور ہائے رکھ لے۔

دیکھو : لا الہ الا اللہ کی کئی حضرت علی کی سچ کی پیروی واجب کی دعائی اول ماخورد و عشرت تین تین رقم در میان میں مصداق دعا تین دفعہ پڑھیں گے۔

عظیم محمدی اشرف صاحب، علامہ : اول ماخورد و عشرت تین بار در میان میں سات مرتبہ دعا پڑھیں

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
پڑھ لیا کریں۔ ۱۰۰ بار پڑھنے سے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے دیتے گے۔

۳۱۳ بار ہر روز پڑھ کر پانچ ماہ کے انشاء اللہ دعا مقبول ہوں۔
بند نماز شمار بہتر ہے جب تک وہ تسبیح نہ پڑھتے جائیں وہ کجا ہے۔
"اللہ کی تسبیح تیر کی دعا نبی کی شفقت"

پراسے کشف

۳۱۲ بار کم از کم دن میں دو اور دو پڑھتے۔ کشف کے لئے مجرب ہے۔
دعا ہے۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لَنَا آيَاتٍ مَا عَلَّمْنَا بِهَذَا آيَاتِ آتِنَا الْعِلْمَ الْحَكِيمَ

پراسے دفع بلیات جن اسیب وغیرہ

۳۲۵۲	۳۲۳۵	۳۲۵۰
۳۳۴۴	۳۳۳۹	۳۳۵۱
۳۳۳۸	۳۳۵۳	۳۳۳۶

نقش چھپا کاف مناسبت اسیب زدہ کے گئے ہیں پہستانیں۔

۴۹۱	۴۹۰	۴۸۸
۴۹۲	۴۹۳	۴۸۹

پراسے دفع اسیب اسیب و سحر جن وغیرہ کے مرض سے بدن کا کپڑا جو ہمت علیٰ کعبہ اس پر سیاہی سے لکھ کر مٹی چرخ میں روغن تخم میثی



سرسوں کا تیل ڈاکٹر روشن کرے۔ ہر دفع ایک روز میں صحتیاب ہو جائے گا۔ گناہ استغیا طاعتین یا سات روز تک جلائے۔ اور مریض کو تین چار مال ذلیتہ کے اندر سفر دور رکھو۔

دیکھو

مکان کے جاؤں کو لوٹوں میں یہ آیت مباد کہ کا غفر لکھ کر مٹی کے برتن میں رکھ کر دفن کرے۔ انشاء اللہ اس مکان سے اسیب دفع ہو۔ آیت مباد کہ یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى بِاللهِ عِزًّا وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ
 لِاحْوَالٍ وَلَا تَفْرَقُوا بَيْنَ اللهِ وَالنَّبِيِّ الْعَظِيمِ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِإِذْنِ اللهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
 فَإِنَّ مَعَادَةَ مَنْ رَجَعْنَا إِلَيْكَ إِنَّهُ قَبْلَ أَنْ تَعْمُرَهُ وَرَأَى
 عِنْدِيهِ تَقَرُّ أَمِينٌ مِنَ الْخَوَارِفِ وَتَلَا مِنْ الْقُرْآنِ مَا
 هُوَ تَقَرُّهُ وَرَمَى بِرَأْسِهِ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنَ الْكَلْبِ
 حَسْبِيَ اللهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

دافعِ سحر: کسی قسم کے سحر یا جادو سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو پڑھیں۔
 اللہ شکر کی دعا پوری سورہ ۱۱۱ بار پالی یا پوری ۱۱ بار کر کے پڑھیں۔
 انشاء اللہ صحت اور کم از کم چالیس روز کریں۔
 برائے دفعِ جن و انسید: جن و انسید کے مریض کے پیٹھے ہونے والے کپڑے پر یہ نقش تحریر کریں اور تین بار سر سے یا اول انگ انگ اتاریں اور

۷۹۳	۷۸۶	۷۹۱
۷۸۸	۷۹۰	۷۹۲
۷۸۹	۷۹۳	۷۸۷

جنا دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ
 سب دفع بیوں۔
 دیگر برائے دفعِ جہنم: اسباب

۷۸۶

۳۲۵۶۳	۳۲۵۶۵	۳۲۵۶۰
۳۲۵۵۹	۳۲۵۶۳	۳۲۵۶۷
۳۲۵۶۱	۳۲۵۶۱	۳۲۵۶۲

نوشترہ در گھونیند و خوردن
 دہ روزہ معاملہ بجا آید سوا
 لاکھ زکوٰۃ ادا کند

دیگر روزہ نقش پہلی کاف کا ہے جمیع امرذات کے واسطے اگر آپریں
 کے واسطے فلیتہ کرے تو یہ آتم بھی لکھے عدد یہ ہیں ۲۰۰۰۲۰۰
 آصف بن برخیا باہ شاہ یکا نونش یا سید لڑتین کو قوال پروردہ: ایقہ
 صلیقہ مانی تو پروردہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۰۰۲۰۰	۲۰۰۰۲۰۰	۲۰۰۰۲۰۰
یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امیر اہل	یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امیر اہل	یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امیر اہل
بیت	بیت	بیت
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امیر اہل	یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امیر اہل	یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امیر اہل
بیت	بیت	بیت

۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
یا حضرت امام	یا حضرت امام	یا حضرت امام
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
یا حضرت امام	یا حضرت امام	یا حضرت امام
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
یا حضرت امام	یا حضرت امام	یا حضرت امام

وَرَضِيَ اللَّهُ وَوَلَّطُفَ اللَّهُ وَكَبَّرَ اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ
 وَصَدَّقَ اللَّهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُجْتَمِعٌ مَرْتَمُونَ اللَّهُ وَمَبَاتِلُهُ
 فِي الْخَيْرِ يُؤْتِيهِمْ مَخْرُجًا وَآلِيَهُمْ مَخْرُجًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ

۵۳۴	۵۳۰	۵۲۳	۵۳۰
۵۳۱	۵۳۱	۵۳۶	۵۲۱
۵۳۲	۵۳۵	۵۲۸	۵۳۵
۵۳۲	۵۳۲	۵۳۲	۵۲۲

دیگر۔ برائے ردر
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا بَعْدُ
 مُحَمَّدٍ كُنَّا نَرَى فِي بَعْضِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ
 بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ
 رَدِّ بَجَرِ
 وَشَرِّ بَجَرِ
 وَلَا يَزِيدُ مِنْ ظِلِّ الْبَيْتِ الْأَحْسَنِ إِلَّا بِحَقِّ كَلِمَةِ اللَّهِ
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدِّ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ بَجَرِ
 مَرِيضٌ كَوْمِ كَوْمِ كَوْمِ كَوْمِ كَوْمِ كَوْمِ كَوْمِ كَوْمِ
 دِيكُو دِيكُو دِيكُو دِيكُو دِيكُو دِيكُو دِيكُو دِيكُو دِيكُو
 كَهَلَاةُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ
 كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ كَرْمَلُ

دیگر برائے ردر
 ا م ن ف ح ح ح م ا ع ب ج ز ت ح ف ر ن خ ذ و ا س ی د ا ش ت
 ج ہ ل گ ر س م ا ن ف د م س ر ہ ب ج ک ہ ی ع ح ص ب ج م ع ق
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. جاء الحق وذهوا الباطل
 ان الباطل كان ذوقا ان الله يبسط يده بالليل
 علن اليه يسير. انما يصنعوكيذا ساحر ويا قاح سادر
 حيث اذ يفتحها الشرا من تحت الاية الا الله لا اله الا الله

لطائف اشرفی

آیوب زده یا جن یا بھیرت شیطان دغیرہ خواب میں پریشان
 کرتا ہو تو یہ لطائف اشرفی عمل میں لائیں۔ یہ تمہارے گلے میں پیسے۔
 ۱۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یا مَعْتَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ان
 اسْتَطَعْتُمْ ان تَنْفَعُوا مِنْ انْقِطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَافِعًا دَا
 لًا تَنْفَعُوا لِي الْإِبِلِطَانِ فَيَأْتِي الْإِلاءَ رَبِّي كَمَا سَكَنَ بَنِي بَرْتَكِ
 يَا ارحم الراحمين

۶	۱	۸
۷	۵	۲
۲	۹	۳

کشف معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ندوم سید اشرفی جہ دیگر سمانی قدس سرہ ہر وقت و
 آجے دیکھتے کہ وہ دہند فلاں بن فلاں باہ وچ شود

۲۔ اس نقش کو کم از کم چالیس دن دھونی دیں۔



۳۔ اس نقویہ کو لکھ کر پلائے۔ کم از کم چالیس دن

پوری سورہ فاتحہ کے بعد یا حی حین الاچی فی دعوۃ ملک دلتارہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اسلام۔ یا اسلم۔ یا اسلمی۔ یا اسلمی یا اسلمی

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

۴۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی یاد میں یا ایدوج کھنکھن کر پلائے۔ یا ایدوج کھنکھن کر پلائے۔ یا ایدوج کھنکھن کر پلائے۔ یا ایدوج کھنکھن کر پلائے۔

برائے چار دلوں کے

۱۔ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر گلے میں باندھیں اور سات روز تک پلائیں۔

۹۹۲۷	۹۹۲۸	۹۹۲۹
۹۹۲۸	۹۹۲۹	۹۹۳۰
۹۹۲۹	۹۹۳۰	۹۹۳۱

شناخت آسید و سحر و جمن امراض

شناخت آسید و سحر و جمن امراض۔ اگر کسی مریض کا آسید ہو تو یہ دواؤں نقش لکھ کر ۳۴۱ کا نقش درپیش کے واسطے ہاتھ پر تو قریب پانچ منٹ تک رکھا جائے۔ اگر حالت میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو تو دوسرا نقش ۳۴۲ کا لکھی جگہ پر رکھ کر پانچ منٹ یا باؤ دس رشتہ پیدا ہو تو کچھ لوگ آسید ہے اور سر یا اگر کوئی اور دوا لکھی جائے تو اس سے کئی تبدیلی نہ ہو تو مرض جمنی ہے۔

۳۲۶	۳۳۰	۳۳۳	۳۱۹
۳۲۲	۳۲۰	۳۲۵	۳۳۱
۳۲۱	۳۲۵	۳۲۸	۳۲۳
۳۲۹	۳۲۳	۳۲۲	۳۲۷

۳۲۳	۳۲۷	۳۳۰	۳۲۷
۳۲۹	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۸
۳۱۹	۳۳۲	۳۲۵	۳۲۲
۳۲۶	۳۲۱	۳۳۰	۳۳۱

۲۔ یہ ہے کہ مریض کی پاک مٹی کے برتن پر اس نقش کو لکھ اور سات مرتبہ مریض پر دوسرے پھراگ تیز میں جو لکھی کے کہلے کا ہو۔ آسید ڈالو۔ اگر تو سحر و سحر ہونے کے بعد برتن کے معلوم ہو تو سحر ہے اور اگر حرف سحر نہ ہو تو آسید ہے یا چڑھیل۔ اگر حرف غائب ہو جائیں تو جمن دہری ہے اگر حرف مہیا

زمین تو مرض ہے۔ نقش یہ ہے۔

۳۲۱۱۱۲۴۳۷۹۴۵۱۸۳۱۱

ذیکرہ۔ یہ ہے کہ مریض کے بائیں ہاتھ کو پونچھیں اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ مریض کی منہ سے پندہم کر کے اس کے بعد سورہ ناس تین مرتبہ دم کرے۔ پھر مریض کو کھڑے کر دیکھے اگر مدخل پاخانہ کے پوائے تو سوز کیا گیا ہے۔ اگر پھل جیسی بو ہے تو آسب ہے اگر سب دستوں کو دیکھے تو اس کا آسب نظر آئے گا

ایک سانس میں نقش بھر کر مریض کو دیکھتے کو دیں مریض نقش کی روشنائی میں دیکھیں اور جو کیفیت نظر آئے وہ عامل کہتا ہے۔

۴۸۶

۸	۱۱	۱۵	۱
۱۳	۲۱	۷	۱۴
۳		۹	۶
۱۰	۵۶	۱۵	۱۵

عزیمت علیکم یا ماشاء یکتا لوش مع افواج خود حاضر شردین حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام را۔

عامل یہ عزیمت پڑھنا چاہے۔

ذیکرہ

اللہ اللہ یحییٰ جبرائیل ابوبکر بنی السعدیہ یحییٰ میکائیل علی بن ابی طالب



۴۸۶

۲۷	۲۰	۲۵
۵۲		۲۶
۲۳	۲۸	۲۱

ذیکرہ۔ اسے ایک سانس میں بھریں اور مریض کو اسکی روشنائی میں دیکھتے کو دیں عامل اس میں بھی کو پڑھنا چاہے۔


عزیمت علیکم یا ماشاء یکتا لوش مع افواج خود حاضر شردین حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام را۔

ذیکرہ۔ یہ بھی آسب کے مریض کیلئے ہے اسی عزیمت یہ ہے۔

۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۸		۸	۸
۲	۸	۸	۲
۱۴	۸	۲	۱۴

یا جبرائیل یا دردا ئیل یا رفیقائیل یا تمکلیل یا ۲۱ بار یا بدوح پڑھو۔

برائے دفع سحر و آسیب : سحر و آسیب و جی و شیطین
 و ظالمان و تیر و تیر، شمشیر و بندوق ہرگز اثر نہ کرے۔ اس نقش
 کو دیو اور پری لٹکائیں۔



آسیب ظاہر ہوگا اس نقش کو آسیب زدہ کے
 ہاتھ میں دینے سے جو کچھ اس پر ہوگا حاضر ہو جائے گا۔

۳۴۲۱	۳۴۲۲	۳۴۲۳	۳۴۲۴
۳۴۲۵	۳۴۲۶	۳۴۲۷	۳۴۲۸
۳۴۲۹	۳۴۳۰	۳۴۳۱	۳۴۳۲
۳۴۳۳	۳۴۳۴	۳۴۳۵	۳۴۳۶

آسیب حاضر ہوگا۔ مریض کے سر پر اگر حاضر ہو کر آتے
 آتے اور اپنے منہ کو حاضر کرے۔ یہ نقش لکھ کر مریض کے دہانہ
 ہاتھ میں دے۔ مریض نقش لکھ کر ہاتھ میں دے۔ عامل مریض
 کے سامنے یہ اربابی

۷۸۶

۳۲۲۱	۳۲۲۲	۳۲۲۳	۳۲۲۴
۳۲۲۵	۳۲۲۶	۳۲۲۷	۳۲۲۸
۳۲۲۹	۳۲۳۰	۳۲۳۱	۳۲۳۲
۳۲۳۳	۳۲۳۴	۳۲۳۵	۳۲۳۶

پڑھتا رہے۔
 اسے اشرف زمانہ زمانے عدو نما
 اور اسے کھینچ کر
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تہا نیک سیرانی رحمتا اللہ علیہ حضرت سید عبدالرزاق نورانی
 علیہ و آلہ وسلم کو دے۔ یہ نقش مریض کے ہاتھ میں دے۔
 آسیب لفظ آئے گا۔ چینی کے پیالے میں پانی بھر کر نابالغ
 لڑکے کے سامنے رکھے کہ وہ اس کو جوڑ دیکھے اور نالی تین بار
 درود شریف اور سات بار سوزہ لایلاف پھر تین بار درود شریف
 پڑھ کر پیالے پر دم کر دیں جو کچھ آسیب ہوگا نظر آئے گا۔

طریقہ سحر جادو دریافت کرنے کا

اگر کسی کو سحر یا جادو دیکھنا ہو تو شبہ ہو تو نالی کو چاہئے کہ
 اول وضو کر کے درگت نماز نقش تہا نیک حضور شریف کے ساتھ
 ادا کرے۔ بعد ختم حضور سر دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتحہ

پر سے اور عطر و پھول خراہ کوئی بھی پھول ہو اس پر دم کرے اور
ایک تا بالغ بڑھن کر پہنائے، اور اگر بچی خوشبو کے ساتھ کسی
جگہ پر بٹھا دے، مریض کا رخ چائے قبیلہ ہو اور لڑکی سے کہے کہ
مریض کی پیٹھ کو دیکھے اگر کوئی چیز دیکھتی ہو تو تجھ کو بتائے
اول عامل سات مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا از بلدیہ عزیمت
پڑھتا جائے۔

عزیمت علیکم یا مہر کل اناس من اولاد علیہ السلام وا۔
حضرت سیاحان بن داؤد علیہ السلام وا۔

عزیمت جلد جلد پڑھنا جائے اور کچھ دیر کے بعد رگ سے
بوجھے کہ بصورت بندر سیاہ کوئی بھیانک صورت تو نظر نہیں
آتی ہے۔ پھر عزیمت پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ سوار مریض
کی پیٹھ پر ظاہر ہوں اور وہ بلیات کو پکڑ کرے کہ دن میں
طوبق ڈال کر ہاتھ دے ڈھے نظر آویں، اور میں عزیمت سرسوں میں
پر ۴ بار پڑھ کر دم کرے اور مریض بالمش کو میں اور دست کو میں
کے پانی سے مریض کو تین یوم غسل دیں اور ۳ توہید پیر لگا کر روزانہ
نہا منڈ لائیں۔ تعویذ یہ ہے۔
پہانے کے لئے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱۱ ۱۱ و ط ی بطامعاوس م

یہ پیٹھ کے لئے ہے

ان من ساحی م سلیمان بن داؤد علیہ السلام

دفع سحر و جادو

سحر و جادو کے اثر کو دفع کرنے کیلئے یہ عمل بہت خراب ہے
پاک و صاف مٹی کا ایک گولہ بنا کر اس پر دعا ایسی مانت
بار پڑھ کر آگ میں ڈال دینا، جب شہ رخ ہو جائے تو صبح و شام
۴۰ بار پڑھنا، اس میں سحر و جادو کا اثر ختم ہوتا ہے۔
میں سحر و آسب جاتا رہے گا۔

دعا ہے یہی ہے۔

آیہ لکھو دل قرآن، آپ چلے تو رحمان حلقہ ہاتھ سات آسمان
سات گلی ایک دریاں پاؤں رکھے جبرئیل کو دم کرے رحمن وجود
موجود بارگاہ رسول، ہند چلے کرے چلہ وہ نکرے جادو کرے
سومرے۔

دیکھو۔ آسب زدہ کے سامنے بیٹھ کر سورہ چینی پڑھے۔
پاؤں باٹھارت، تلاوت کرے اور پانی کسی برتن میں اپنے پاس
رکھے جب سورہ جون ختم کر چکے تو اس پانی پر دم کر کے مریض کے
سینہ پر تھوڑا سا لے اور دو قطرہ ناک کے دونوں نکتوں میں
ڈال دے۔ تھوڑا سحر اور جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔

دیگر۔ یہ بھی آسید کیلے ایک سال میں سب کر رہیں گے کوڑھ کیلے

کے لئے دے۔ اور سب دے ہوئے عربیت کو پڑھنا چاہئے۔ یا سحی یا عواجی یا اسرائیل یا لشکر پر پاں آمدہ حاضر شود

۸	۱	۶
۳		۷
۴	۹	۲

الاستیاضہ حسیبہ کاف

یہ سہل کاف کی خدمت کا نام ہے۔ ازہ مصنف کی عقیدہ ہے کہ جس کو یہ سہل پڑی تو اسے عقل و تقویٰ و طیب الکونین شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سہل میں وہ سب کے سب زبان کے باطنی جملوں میں ۴۸ کاف فرما کر ظاہری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے کثیر فوائد کتب الخیرات میں درج فرمائے۔

اول و آخر روز شریف گیارہ بار ایدھا انحصام ایک بار پڑھیں۔
اَبْرَصَا صَبْرًا صَارَ صَا لِرَحْمَاتِ دَرَسَا وَ لِرَا حَسْبِي اَبْرَصَا
صَبْرًا صَارَ صَابِرًا صَبْرًا صَبْرًا صَبْرًا صَبْرًا صَبْرًا صَبْرًا
كُلُّ نَفْسٍ رَاحِلَةٌ مِمَّنْ جَاءَتْ بِحَسْرَةٍ وَرَجَعَتْ عَارِيَةً
سَلَامًا يَاحْرُورِ اَمِيں رَحْمَةُ الْكَافِ اَبْرَا وَ اَطْلَعْنِي وَ اَمْرًا لِي
رَحْمَةُ الْكَافِ كَابِرِي وَ اَمْرًا لِي رَاحِلَةٌ مِمَّنْ جَاءَتْ بِحَسْرَةٍ وَ رَجَعَتْ عَارِيَةً

کَلْبِيَا بَيْنَ قَلْبِي الْعَامُو بِحَقِّ كَفَاتٍ وَ اَبْنِ عَالَمِ الْاَدْرَاكِ
فِي هَذِهِ الشَّاعِلَةِ سَرَفِيًا - زَاكِيًا

یا مَوَکَل - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - کَفَاکَ وَ تَلَّکَ یَا کَلْبِیْنَ
تَمْرٌ کَفِیْکَ یَا کَلْبِیْ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ
کَانَ مَن کَلَا یَا کَفِیْکَ یَا کَفِیْکَ یَا کَفِیْکَ یَا کَفِیْکَ یَا کَفِیْکَ
فِي کَلْبِي يَا كَلْبِي تَجَلِي يَا كَلْبِي مَشْكُوكَةً
کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ
کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ
یَا کَفِیْکَ
ر۔ بار بار صوفیہ یا رہی کاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - کَفَاکَ وَ تَلَّکَ کَمَ کَفِیْکَ وَ اَلْفَ کَفِیْکَ
تَهَاکَ کَفِیْکَ کَانَ مَن کَلَا کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ کَفِیْکَ
کَلَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ کَفَاکَ
کَفِیْکَ الْفَلَاکَ - بار بار

وَعَارِ اَصْلَامِ بِحَقِّ تَابِ سَبْرِي عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي سَيِّدِ سَبْرِي
سَيِّدًا لِلّٰهِ بِحَقِّ يَا حَرِيْمِي يَا حَافِظِي يَا حَفِيفِي يَا وَكِيْلِي يَا صَمِيْعِي
يَا رَقِيْبِي يَا سَلَامِي يَا كَرِيْمِي يَا اَسْمَاعِيْلِي بِحَقِّ تَهْمِيْعِي وَ بِحَقِّ

حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ
 يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ
 يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ
 يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ يَا حَمْدُكَ

تیل، پانی، اگر پتی، لوبان، پٹھانی، نمک، برآمد کر کے رکھیں
 سو آسیدب کے لئے یا صفو بیماری کے لئے اس کو کھلائیں پہلے
 نمک دیں اگر نمک کے لئے اس کو کھلائیں اور پھر
 صفائی کھلائیں اور پانی پلائیں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔ اگر
 آسیدب زبردست ہو تو کانٹا، ایک ایک لوند تیل کا دلہا
 کہ اندر پہنچ جائے۔ اگر جتی اور لوبان کی دھوئی دنگ میں
 دیں۔ انشاء اللہ آسیدب کا اثر فوراً ختم ہو جائے گا۔

آسیدب کا حصار

اگر زمین کے آتے ہی مرد کے داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے
 اور عورت کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے پستان کی بالوں
 کی جڑ تک سات تار نیلے یا کھلے ڈور سے سے تاپ لیں اور اس
 کو دہر کر کے تار پہلے کان یا نونہل میں اختتام، بار پڑھیں اور
 ہر بار ڈور سے برآمد کر کے ایک گره لگاتے جائیں جب سات

گرہیں لگ جائیں۔ گنڈہ گریں یا ندھیں۔ جب اثر ختم ہو جائے
 یا بھاگ جائے تو گنڈہ گھلے میں ڈال دیں۔

حصار کا دوسرا طریقہ

فکرہ دھائیں حسب ضرورت ایک ایک کی کیلیوں پر دم
 کر کے رکھ لیں۔ دیوار میں لگا دینے کے لئے نونہل لیں اور ان
 کو وہ کان کے ہر کوئی پر ایک ایک کیل لگا دیں اور ایک ایک
 حصار لگنے کے باوجود ہر گز اس پر نہیں اس پلنگ پر نہ بیٹھیں بلکہ
 اس کا استعمال کون پیرا ہی اس پر نہ ہونے کا ہیں اور
 لگا دینے وقت یا صفو ہوا اور آیت الکرسی شریف پڑھتا رہے۔

یہ سراسر حصار

جو آیت الکرسی شریف ھم فیہا شفاء و نونہل تک اس طرح پڑھیں
 کہ مگن کے ایک گوشے پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت الکرسی شریف دھو
 العین العظيمة تک پڑھے اور اس سے آگے لاکوۃ فی الدین
 سے ھم فیہا شفاء و نونہل تک پڑھتے ہوئے دوسرے گوشے
 تک جائے اور اس گوشے پر ہاتھ رکھ کر پھر آیت الکرسی شریف
 دھو العین العظيمة تک پڑھے۔ اسی طرح پورے مکان
 کا حصار کرے۔ اس کے بعد کہیں لگادے۔

شادی کے پیغام کثرت میں!

۱۔ لڑکھائی کی شادی کا پیغام نہیں آنا ہر بار کہہ لیں یہی ہوتی ہے ہل بار
 بار کثرت ملے جوئے کے بعد چھوٹ جاتا ہے تو چاہتے کہ وقت سہو میں
 اس دن دعا گوڑ عزمان سے لکھ کر اس لڑکھائی کے لئے میں اشکاء
 اللہ تعالیٰ شکر اور شکر کہ کھنگی کا سا ان عزیز سے ہو جائے گا۔ تو یہ
 کو خوب بھی فرح موم جامہ کہ کھنگی کا سا ان عزیز سے ہو جائے گا۔ تو یہ
 طرح لپیٹا لگا کر پیتا یا عمل کا پان رہاں تاکہ سرایت نہ ہو۔
 جب تو یہ کو موم جامہ کر دیا جائے یا پلا ہو۔ میں خوب اچھی طرح
 لپیٹ دیا جائے تو اس کے ساتھ غسل خانہ یا استنجی خانہ کے اندر جاتے
 ہیں کہ کئی جرح نہیں ہے۔ یہ تو یہ اس وقت تک لگے ہیں پڑی رہے
 ہیں کہ کو غیر ذوقی شادی نہ ہو جائے۔ شادی ہو جائے کہ یہ تو یہ کہتے
 پانی میں ڈال دیا جوئے اور غیروں پر کچھ حد نہ کر دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا حلیہ لا یجمل یا کریم
 لا یجمل یا ذا الجود والقوہ یا ذا الرحمة
 الواسعة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہٖ و سلم و ہوا الثغر او دودا من
 کل شیء یحکمنا و رزقنا انکم تکونون الہم بحق آیة
 هذا و بخرمة محمد علیہ السلام ان تری من طہارة المرأة
 و ہوا الثغر او دودا من کل شیء یحکمنا و رزقنا انکم تکونون الہم بحق آیة

محمد وآلہٖ لجمعین
 تو یہ اگر مرد کے لئے ہے تو یہ اسے عذرا لمرأة کے لئے لکھنا چاہئے
 ان تر تری من طہارة الرجل و ہوا الثغر او دودا من کل شیء یحکمنا و رزقنا انکم تکونون الہم بحق آیة
 غیر مخالفتہ

نوٹ۔ دعا مذکورہ کے لکھنے وقت اس بات کا خیال رہے کہ
 جن مرد کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کو کھلی ہی رہنی چاہئے نہ
 مہرہ لگا دیا جائے ورنہ اس کو عذرا لمرأة کے لئے لکھنا چاہئے۔
 اور اس وقت اس نقش کی صورت میں ہی لکھئے۔

۳۰	۳۱	۳۲	۳۳
۳۴	۳۵	۳۶	۳۷
۳۸	۳۹	۴۰	۴۱
۴۲	۴۳	۴۴	۴۵

۳۰	۳۱	۳۲	۳۳
۳۴	۳۵	۳۶	۳۷
۳۸	۳۹	۴۰	۴۱
۴۲	۴۳	۴۴	۴۵

ان تر تری من طہارة الرجل و ہوا الثغر او دودا من کل شیء یحکمنا و رزقنا انکم تکونون الہم بحق آیة
 نہ جانا نہ مخالفت

ہر بار اس وقت اس نقش کی صورت میں لکھئے کہ
 مہرہ لگا دیا جائے ورنہ اس کو عذرا لمرأة کے لئے لکھنا چاہئے۔
 اور اس وقت اس نقش کی صورت میں ہی لکھئے۔

نوٹ۔ دعا مذکورہ کے لکھنے وقت اس بات کا خیال رہے کہ
 جن مرد کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کو کھلی ہی رہنی چاہئے نہ
 مہرہ لگا دیا جائے ورنہ اس کو عذرا لمرأة کے لئے لکھنا چاہئے۔
 اور اس وقت اس نقش کی صورت میں ہی لکھئے۔

بِحَوْلِهِ وَالرُّسُلُ لِيُحْيِيَهُمْ وَيُنشِئَ لَكُمْ سُلُوكًا مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَمِنَ الْآيَاتِ أَنْ يُنَزِّلَ الْغَيْثَ لَكُمْ وَيُنشِئَ لَكُمُ السُّبُلَ وَيَخْرِقَ الْبُرُوجَ
 وَأَن يُنَادِيَ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ إِذَا اتَّعَسَتِ السُّجُودَ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ
 وَأَن يُنزِّلَ الْغَيْثَ لَكُمْ وَيُنشِئَ لَكُمُ السُّبُلَ وَيَخْرِقَ الْبُرُوجَ
 وَأَن يُنَادِيَ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ إِذَا اتَّعَسَتِ السُّجُودَ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

۲۱۲۱	۲۱۲۲	۲۱۲۳	۲۱۲۴
۲۱۲۵	۲۱۲۶	۲۱۲۷	۲۱۲۸
۲۱۲۹	۲۱۳۰	۲۱۳۱	۲۱۳۲
۲۱۳۳	۲۱۳۴	۲۱۳۵	۲۱۳۶

خوش قسمتی اور شادمانی کے لیے یہ جملے تلازمہ کے نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔

پیغام شادی بیکثرت آویں

پیغام شادی بیکثرت آویں
 اور شادمانی کے لیے یہ جملے تلازمہ کے نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔

• پیغام شادی بیکثرت آویں کے لیے یہ جملے تلازمہ کے نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔

۵۱۳	۲۱۱	۵۱۲	۲۲
ح	۱۳	ع	د
۵۲۳	۲۱۵	۲	۳
۶	۱۹	۳	۶

بار و بند حضرت امیر المومنین
 مولائے کائنات حضرت سیدنا
 امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اولاد کیلئے حُرَبِ عملیات

عورت یا مرد جو ان آیات کو صحیح طور پر سمجھیں ہر روز ایک بار
 بخوانے اور قلب پر لکھ کر پانی پر دم کر کے دو لکڑیاں پھیری پیا کریں۔
 انشاء اللہ اولاد ضرور ہوگی
 دعا یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ أَلَمٌ أَوْ جُوعٌ أَوْ قُرْبٌ أَوْ بَعْدٌ أَوْ سَبٌّ أَوْ كِبَرٌ أَوْ جُنْدٌ أَوْ عِلْمٌ أَوْ قُوَّةٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ جُنْدٌ أَوْ عِلْمٌ أَوْ قُوَّةٌ
 نُطْفَةٍ فِي سَائِرِ مَيِّمِينَ هَمْ حَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَاقِبَةً فَخَلَقْنَا
 الْجَسَدَ مُمْتَعَةً فَخَلَقْنَا الْمُنْتَعَةَ عِظَابًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
 لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَا سَخْلًا آخَرَ فَخَلَقْنَا لَكَ اللهُ أَحْسَنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶۲۵۳	۶۲۴۸	۶۲۵۵
۶۲۵۲	۶۲۵۲	۶۳۵۰
۶۲۴۶	۶۲۵۶	۶۳۵۱

دو نقش لکھ کر ایک مرد کے
 گلے میں دو سمر عورت کے گلے میں
 ڈالا جائے۔ اگر س نقش کرے
 پیڑوں طرف مکرہ بالا آیت
 لکھیں۔ سید سفید ہے۔

دو سمر اسم عمل - اولاد کے لئے ان آیات اور نقش کو کنگڑ
 کر کے گلے میں ڈالیں اور روزانہ پانی میں ڈال کر دھو کر پتی رہیں
 اور ایک لکھ کر گلے میں بٹھا رہے اور ایک لکھ کر لکھ کر

الکعبه اکرمہ جا کر کے سطلے میں ڈالیں کہ نواف سے نیچے رہے نمر سے
باندھے نقش سائے پیڑ و پر ہے۔

يُذَكِّرُ تَارِكًا مَّا بَشَّرْتُمْ بِمَشْرُوقِ يَمِينِكُمْ بِمَشْرِيقِي لَمْ يَجْعَلْ لَنَا
مِنْ قَبْلِ مَسْجِدِنَا هَٰذَا شَيْءًا قَالُوا نَسِيتُ أَفِي نِيكُونُ لِي قَلْعَةٌ وَكَانَتْ لِمَنْ أَوْلَىٰ
مَنَاوَرًا وَرَدَّدْنَا بَعَثَتْ مِنْ الرُّكْبَةِ عِدَّتِيهَا هَٰذَا قَالَ كَذَّبْتَ نَالَ
رَبِّيكَ هُوَ عَمَلِي هَسْبُنِي وَتَدَّ خَلْقَتَكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا هَٰ

۳۹۵۶	۳۹۵۱	۳۹۵۱
۳۹۵۷	۳۹۵۵	۳۹۵۳
۳۹۵۲	۳۹۵۹	۳۹۵۳

اجب یا سید امین قال اختلاف رسول ربک لاکھب لاکھب لاکھب لاکھب
حاصل کا قرار نہ پیکر لانا۔ بعض غور توں کا محل خود خود غائب ہو گیا کہ
ان کو پناہ نہ کہتا رہے۔ ذیل کلمات کو رعایت معذرتوں سے لکھ کر سات
دوں تک لکھتا رہے۔ یہ میں میں پلائے۔ تہہ پہلے میں میں لائیں نقش پلائے کے
بعد حاصل کی پوری حفاظت ہو جائے گی اور آتم کیلئے ہی عمل تر اور پائے کا
کلمات مبارکہ یہ ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِحَقِّ کَلَامِ اللّٰهِ الْفَرِیْقِ
وَبِحَقِّ الْجَلِیْلِ الْجَبَّارِ وَبِحَقِّ الْعَرَبِیْنَ الْعُقَاوِرِ وَبِحَقِّ تَوْحِیْدِ رَبِّیْ الْجَبَلِ
وَبِحَقِّ زَبُورِ وَبِحَقِّ شُرْقَانِ وَبِحَقِّ مَالِ الْمَصْطَفٰی عَمَلِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
وَبِحَقِّ جَبْرَائِیلِ وَمِکَائِیْلِ وَاسْرَائِیْلِ وَعِزْرَائِیلِ وَبِحَقِّ تَهْمِ اجْمَعِیْنَ

سائے کے کا کا مجرب عمل

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورل بہت ہی مجرب ہے اور پورا ہے
اور عمر بھر کے لئے ایٹ ہی زکوٰۃ کافی ہے۔ لڑنے لڑنے اور لڑنے کے بعد
وہ عینت اور ابھری بھی نہ کھائے اور اگر ہر سال زکوٰۃ کی خدمت کو
رہے تو معاملہ کا کوئی وارغالی نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ
درمیان شریف کی مسابیحوں یا انہما بیسویں دانوں کو ہارے اور
میں جا کر بیٹھ جائے اور ان ایٹ کو ٹیکٹ سوچے پھیلے اور پڑتے ہیں
عقل ہو گیا اس کے بعد اس ہات کا ہر دو مال دیکھے کہ کبھی سات کا
کہا۔ تر وقت جراثیم کچھ جائے دکھائے سے ڈرا ہوا تھا۔ کھینچنے ورنہ
نقصان اٹھائے گا۔ پھر اگر سائے کا کا ہوا کرے اس جاہل کے پاس آئے
کہ انہیں بیات کو تین بن پارٹیکر دم کر۔ تیسری پارٹیکر ہوا پارٹیکر
دروہ لگ رہا ہے۔ لایا ہوا ہے گا۔ ذرا تھوڑا دم کرتے سے پہلے سائے کے
کاٹے ہوئے سے سوا میرا سا گیا ہو شکر حاصل کرے اور اس پر جاہل و ناخبر
پر تھوڑے کا قراوت شیخ الاسلام حضرت سیدنا بابر علیہ السلام نے
کی روح پر تھوڑے کو نذر کرے۔

بھاڑ کر سے محمد جا دیکھو گھر گھر
آدم جا پلٹ من۔ کتے ٹھہرا یا
انکو اور سے کچھ بھڑے لڑی کر خدا

پھر اے سبیل زدہ
یا نقشِ تکبیر کے نیچے لکھیں

۹۹۱۶	۹۹۱۹	۹۹۲۲	۹۹۰۹
۹۹۲۱	۹۹۱۰	۹۹۱۵	۹۹۲۰
۹۹۱۱	۹۹۲۳	۹۹۱۷	۹۹۱۳
۹۹۱۸	۹۹۱۲	۹۹۱۴	۹۹۱۶

• نلیتہ خاص حضرت خذوم سمنانی قدس سرہ

۸۶ ۱۱۱ ۷۷ ۷۷ سلام قولاً من رب الرحیم
ایلیس فرعون حامان ضحاک اجین حیلین
تمود شداد قارون البرجمیل اللعین العین العین

سیدنا محمد سیدنا عیسیٰ
سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل
سیدنا یحییٰ سیدنا یونس
سیدنا زکریا سیدنا عیسیٰ
سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل
سیدنا یحییٰ سیدنا یونس
سیدنا زکریا سیدنا عیسیٰ

• حرمت حضرت خذوم سیدنا شرف بہا نیکر سمنانی قدس سرہ مبارک شیکہ
در جوہر و فلاحین فنان بامشہرہ یوسفیہ و خاں ستر گرد

• پراسے در شمنان

• بعد از اقرار مبارک تقویٰ کر کے پڑھنے اور دشمن کی طرف دم کرنے

اللہم اکتفناھا شنتہا سنا صحتہا

متفرقات

دعا رسم عظیم بر ہر کار و فریضہ

خواجه حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تہجد کے بعد صبح کا نماز
سکھ لانا بعد پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ایسا مقصد طلب کرے
ان شاء اللہ ضرور کامیاب ہوگی۔

یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
اقتل اللہ اللہ ائمة لالة الا للہ افض عینی السائین
داؤد فقیہ بغدادیہ

• برائے قصائے حاجات

ایک ہفتہ مسلسل اس دعا کو پڑھے اور دعا مانگے۔ اللہ
تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا قلیم
یا ذا اللہ یا فاضلہ یا سحر یا قیوم یا قیاد یا رزق یا کرم
یا صمد یا من اللہ یا من اللہ یا من اللہ یا من اللہ
یا من اللہ یا من اللہ یا من اللہ یا من اللہ

• ہوا گرم ہو گئی، اگر طالی عمل کے باعث دیوانہ ہو گیا تو اس دعا کو پڑھ کر نماز فجر ۱۱-۱۲
دیکھتے وقت اور درمیان میں ۱۱-۱۲ بار اور در شرف پڑھ کر دو ٹوک کرے اور ہر تہجد

• برائے عزت و جاه و فلاح دین

ہر شنباء صومعدی و ہر کام میں درود پڑھیں سال بھر ترتیب ہوگی۔
 شبانہ کی چودھریں تاریخ کو نئے قلم سے نئے برقع میں زعفران گھول
 کر سرخ کاغذ پر بعد نماز عصر لکھیں اور بخام جامہ کر کے اپنے پاس
 رکھیں۔ انشاء اللہ ہر کام میں برکت ہوگی۔

• محاضرات فخر شاہ کی

یہ ہے کہ نزدیک ایک پورا ایک سفید کپڑا بچھا کر ۲۔۳۔
 روپیہ ایک نذر کے نام سے اس کپڑے پر رکھے اور شیرینی، بھول
 عطر رکھے۔ ہفتہ کے روز یا منگل کے روز یہ عمل کرے۔ ہر قسم کا
 آسیب جاتا رہے گا۔ نقش یہ ہے۔

فلینہ محاضرات فخر شاہ برائے دفع آسیب و جن وغیرہا

۱	۸	۱۱	۱۴	۱۷
۲	۱۳	۱۶	۱۹	۲۲
۳	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷
۴	۲۳	۲۶	۲۹	۳۲
۵	۲۸	۳۱	۳۴	۳۷

برکت ایک انی دلہ۔ دیکھو اسے جلد ہرود لیا
 پروردگاریاں جن جیواں سحر سحران بولگ
 بگتیاں دخول برابانیاں روح جنہ وکالاد
 وگراو پیہ لامہر جواران اشت جہنما بچ
 درود خوان ہشت خوان مہرمت یہا پر ہرین قلبتہ چراغ وراکد
 بسوز و روش گرد کرمت این نام یا علیقا ملیقا انت قلہ ما
 فی دلہم ملیقا علیقا انت تعالہ ما فی اشہم جن ابلیس
 سبیس اسپیسو ابلیس فشدادین عاز دلت کوی بلیس فرود
 فرعون ابلیس لعین ماوری سوختہ شود ببق فاضلہ وچہ
 در وجود فلا درین بزلاد بہر حاجت سہلاید درین
 فلیتہ چراغ درآین و بسوزد و دفع شود بچہ مت
 پنجتن پانت دوازده امام علیہ السلام



عمل یا وھاب

دعوت اسکی چورہ لاکھ بار پڑھنا۔ بعد اسے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بعد روزانہ ایک ہزار بار سورۃ الیس مرتبہ پڑھا کریں۔ وہ دنیا میں بھی مستجاب نہ رہے گا۔

دوسری ترکیب :- جب کوئی مشکل پیش آئے تو سچے وقت غسل کر کے دو گانہ لیا کرے اور سر نہ کا کر کے تین سو بار یا وہاں پڑھے۔ پھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے اور پھر بیٹھ کر تین سو مرتبہ پڑھے پھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے۔ پھر بیٹھ کر تین سو بار یا وہاں پڑھے۔ پھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے۔ اس طرح تین شب کرے۔ انشاء اللہ مطلب حاصل ہوگا اول دعا ترک گیارہ بار درود شریف ضرورت ہے اور تین روز تک ترک ہو انات لازم ہے۔

تیسری ترکیب یہ ہے کہ چورہ ہزار مرتبہ چورہ روز تک پڑھے۔ چوتھی ترکیب یہ ہے کہ روزانہ چورہ مرتبہ چورہ روز تک پڑھے اور چورہ تو روزانہ لکھ کر دنیا میں ڈال دے یا لڑھی یا ٹہر جو

بھی ہو مگر وہاں پھیلیاں ہوں۔
خانہ خالی ہیں اپنا مطلب لکھے۔
نقش یہ ہے۔

۸	۵	۱
۴	۱۰	۱۰
۲	۹	۳

دین دنیائی آفات سے نجات

یہ ہفت آیات پاک اسیر اعظم کی صفت رکھتے ہیں۔ دین دنیائی کی آفات سے نجات پائے۔ دور کرنے والا کوئی شخص ناسخ کسی معاصر میں ماخوذ نہ کیا ہو اگر ناسخ کا یہی التزام ہو تو حکم خدا بری ہو۔ اگر قرین وار ہو تو قرین ادا ہو۔ غرض کوئی کام درونی معصیت ہو تو خدا رحم فرمائے۔ ترکیب یہ ہے کہ آنجنوں سلام اس طرح پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے بندوں سے محفوظ رکھے۔ بار بعد نماز عصر ۱۲ بار بعد نماز مغرب گیارہ بار بعد نماز شام آٹھ بار اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ دیا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اکیس یوم میں کامیابی ہوگی۔ مگر قرین کے واسطے یا اسیس یوم تسخیر خلافت ہر حالت میں ہوتی اس کی خواص اگر کسی کام کے واسطے درود کر دیں تسخیر عام ساتھ ساتھ ہوں اگر کوئی شخص ایک سو ایک بار ایک بیٹھک میں پڑھے تو وہ عیب غریب اثر دیکھے۔ آیات ستمبر کی یہ ہیں۔

سَلَامٌ قَدْ لَاقَىٰ تَرَاتِبَ السَّرْحَانِ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْتَدِينَ ۝
سَلَامٌ عَلَىٰ رَأْسِ يَمِينِ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ نُجُجِ فِي الصَّلَاتِ ۝
سَلَامٌ عَلَىٰ أُمُوسَىٰ ذَهَارُونَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝
سَلَامٌ عَلَىٰ حَتَّىٰ مَسْطَلِحِ الْقَجْرِ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۝
فَادْخُلُوا خَالِدِينَ ۝

ختم نوابجانِ حقیقت علیہ السلام

سودہ فاتحہ (تو روز تسمیہ کے ساتھ)

۴ بار (صبح آدین)

درود شریف

۱۰۰ بار

سودہ المشریح

۵۰ بار

سودہ اخلاص

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا حَيِّبَ الدُّعَوَاتِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا حَلِّ الْمَشْكَالَاتِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ كَافِي الْمُهْمَاتِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا سَافِيَ الْأَمْرَاضِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا مُسْتَبِئَ الْأَنْبَابِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا الْأَبْصَارِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا ذَلِيلَ الْمُتَحَدِّثِينَ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا مُخْرِجَ الْمُسْتَخْشِقِينَ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ السَّاجِدِينَ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ السَّاجِدِينَ

۱۰۰ بار

لَا تُخَوِّدُنِي وَلَا تُؤَيِّدُنِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

۱۰۰ بار

لَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ

۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

۱۰۰ بار

یہ ختم فاتحہ حاجات اپنی طلب کرے بوسیدہ بندہ خدا

سزاوار سبب لایا و نوابجانِ حقیقت خصوصاً سزاوار غریب نواز

بعد درود شریف پڑھ کر فاتحہ ختم کرے۔ بیرون خلافت طریقہ

کے لئے یہ ختم بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

برائے حاجت ۴۰۰ روز تک عصر سے لیکر رات تک یا جمعہ کے روز

بدرستہ دعا کریں۔

تمل برائے تسخیر القلوب علی الناس

يَا كَوْنِيْنِي يَا شَرْفَانِيْنِي يَا سِرَافِيْنِي يَا كَيْطَانِيْنِي يَا عَسْرِيْنِي

وَمَنْ خَيْرِيْنِي فَيُخَوِّبُ خِيْبِيْنِي وَالنَّاسِ

یہ ختم بد زنگ و وزانہ وقت معینہ پر ۲ مرتبہ پڑھا کرے

بعد ختم چلے و وزانہ ۱۰۰ مرتبہ کی دعا دست اختیار کرے۔ اول دعا عشر

گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ ترکیب جو اذات شرط نہیں ہے

لیکن دوران چلے اگر یا میں دی کر سکے تو بہتر ہے۔

مکان کی بنیاد رکھنے کے خواص

بیںساگھ	میں بنیاد رکھنا دولت و نعمت زیادہ ہو
جلیٹھ	خاتمہ بہبود سے اور حیرانان مسزاداریا سے
اساڑھ	ادنیٰ و گھر ٹرے کے لائق نہ ہوئے۔
ساوات	فرزندوں سے بیگانہ بادشاہ و حکام سے لہما یا دیواریں گر پڑیں۔
بھادوں	بہت کم ہوتی ہیں۔
کنوار	ہمیشہ گھم گھم سے لوگوں اور گھر کے پڑوسوں سے لڑائی ہی آکر ہے۔
کارنگ	کار میں کشتادگی و دشانی بسیار رہے۔
آگھن	جو کچھ خداتے جانتے ہانگا۔
پوس	اسی گھر میں اکثر آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں۔
مٹھ	فرزند زینینہ پیدا ہو۔
پھاگن	نیک ہوگا نعمت کم نہیں ہونگا۔
چیت	ہرگز اس گھر میں خوشدلی نہ ہو۔

مکان کی بنیاد ہمیشہ شمال و جنوب ہونا چاہئے اور چوڑائی پورے شہر کم ہو۔ مکان کا رخ انجناہ ہمیشہ نرس کی سمت ہونی چاہیے۔ دوسرے کوئی پوراہہ نہ ہو۔ میں اپنا بیٹھا کا بائیں کی سمت میں اپنی اترتے ہیں۔

مکان کے سوراخوں کی بنیاد رکھنے کی باتوں پر دھیان رکھیں

بروز و شنبہ	بنیاد رکھنا زیادتی مال ہو
یک شنبہ	انگ زیادہ گئے
سہ شنبہ	زراعت نہ ہوگی
پچاس شنبہ	صاحب خانہ نیک صلاح پسند ہوگا
پنچ شنبہ	جو روزگار کرے فارغ البالی ہو
ست شنبہ	انگ ذہنی سے مالا مال ہو
اکتر شنبہ	اکتر لڑکی پیدا ہو

بنیاد رکھنے سے پہلے درج ذیل تراکیب پر عمل کرے تاکہ بلائیں نہ میں رہیں۔ بنیاد رکھتے وقت چاروں کولوں پر اذان کہے تاکہ دیو پری اور حاکم دولت نہ کر شر و فساد سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پندہ میں رکھے اور سہ اذان پہلے قبلہ کی طرف کہے۔ بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ پھر جنوب کی طرف اذان کہے اور سورہ اقلع پڑھے۔ پھر شمال کی طرف اذان کہے اور سورہ قل اعوذ ب اللہ من الہر۔ پھر پورب کی طرف اذان کہے اور سورہ قل اعوذ ب اللہ من الہر پڑھے۔ پھر آسمان کی جانب رخ کر کے آیت الکرسی پڑھے۔ پھر زمین کی طرف رخ کر کے قل یا سبأ کفر دن پڑھے۔ لہذا سورہ بقرہ یا مال والاد خوب ہو

۱ جون ۲۰۱۳ء

تیرا کیسے :- مذکورہ بالا تمام ادویات ایک پتیلی میں رکھ کر ڈسٹانک
 دیں اور رہائشی مکان سے دو واس پتیلی کو آریخ پر رکھ کر دیں، تقریباً
 نصف گھنٹہ کے بعد پتیلی کو آریخ سے اتار دیں۔ اب باؤ ایک کپڑے کی
 مدد سے دو عنق الٹ کر لیں۔ باقی ماندہ نطفے کو پتھر یا کھریں میں پیس کر
 مثل مرچم بنالیں۔ یہ دو عنق لغوہ فاج اور درو میں اکیس دن تک استعمال
 کرنے سے حیرت انگیز ناکارہ کرتا ہے۔ زخموں کے اندر لگانے کے لئے دروسم
 اپنی مثال آپ ہے

مہینہ :- پیٹلگری ۱۵۰ گرام۔ سوڈا خوردنی ۲۵۔ دروؤں، ہشیا و کو
 بادلیک پیں کر منی بنائیں۔ دانہ تری کیلے بہت مفید ہے۔

لشترہ ہر اسے تیریاں

آرد تیرندی میں رشکر ملا کر صبح و شام ایک ایک چمچ اسے کھال کریں۔
 پیر پیر ہر کٹا، مینشا و بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔
 دیکھو۔ برگد کے کو تیل کا دودھ بنا لیں۔ میں ملا کر ۲۰ یوم تک
 کھانے سے حیران ختم ہو جاتا ہے۔

برائے پتھر کی

جو کھلا ہوا پتھر رہے گا وہ آدھ پاؤ۔ دروؤں کو ملا کر صبح و شام
 استعمال کریں۔

دوا سفید داغ کی

کھانے کی دوا :- سوت، چاکسو، منڈی، برسم و ڈنڈی، تیل کھجور، تیل کھنڈ
 سرچھکا، صندل سفید، صندل سرخ، برگ ستا ہترہ، برگ خنا، برگ شمش
 برگ بکائیں، جو اساء، چنیزنہ، ہوزن سیخی ڈھانی ڈھانی، تولہ کوٹ جھان
 کر برگ بھائی، برگ خنا اور برگ نیم میں پیسکر ہترے بزرگولی بنا کر صبح و شام
 درو گول کر عنق بنائیں گھسکر مریش کو بنائیں۔ اوپر سے پانی زونا کا پلاؤ
 پھیلانے والے کھنڈ کے لیے یہ چھال نیم ایک سیر۔ منڈی ایک پاؤ
 چوڑا ایک پاؤ۔ پیرانا ناکارہ آدھ پاؤ۔ سب کو ایک گھڑ پانی میں جھگو دیں۔
 اور آدھ آدھ پاؤ صبح و شام گولی کھا کر پی لیں۔

دوا داغ پر لگانے کی :- یاچی ایک پاؤ لیکر تین دن تک دہی کے
 پانی میں جھگو دیں۔ روزانہ صبح کو پاؤ بیل کر دوسرا دہی کا پانی ڈال دیں۔ چوڑا
 تین دن کے عرق کو اس میں ڈنڈی اشرفی چھال آدھ پاؤ یعنی ہوزن لیکر پیسکر ملائیں
 پھر پیرانا سرکہ میں پیس کر چھلکی ہترے کے برابر گولی بنا کر گھسکر چارے پر روزانہ
 کھائی ہو لگائیں۔

گولی دیکھو :- باچی، صندل سرخ و تخم بیزار ہوزن کچا سرکہ میں
 کوٹ چھلکی کر چھلکی ہترے کے برابر گولی بنائیں اور روزانہ کچا سرکہ میں گھسکر
 داغ پر لگائیں۔ روزانہ ہوزن ہترے، مٹکی روغن ۱۰ ماشہ، روغن لالیوٹہ، تولہ
 ملا کر نیم گرم کر کے جہاں درم چڑا میں پیرا لیں کریں۔

لشخہ دفعیہ جربیان

تلی - تیکھر - تیلی - سا - کھاتہ - گوند - مہی - حانہ پور - سستہ
 سب ادویات کو ہوتوں ایک کرٹ لیں۔ چھان کر مشکر کے شہرو
 لگا کر مثل حلہ کے بنا ڈالیں۔ پھر ایک ایک تولہ کا لڈو بنا کر رکھیں
 صبح کو نہار متہ ایک لڈو کھا کر دوپہر سے ایک پاد لگائے گا درد ص
 پی لیں۔

یہ ہیز بہ بادی - مہی اور مہی پیرا کر کے الپیر کر لیں۔
 بھیلی - کھانہ - سٹھائی سرخ - مرچ اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔

لشخہ ریاح باد کولہ

نمک سیماں اتولہ - نمک مولی اتولہ - مسہاگہ بریان ۳ ماشہ
 نمک شہ الرمیس ۵ تولہ - جعفری ۳۱ ماشہ - بادیان ۳ ماشہ - پودینہ چنگ
 ۱۳ ماشہ - زیرہ سفید ۳ ماشہ - زیرہ سیاہ ۱۳ ماشہ - جود عرق ۱۳ ماشہ - گل سرخ
 ۱۳ ماشہ - رسوٹ ۳ ماشہ - گولکن ۳ ماشہ - رائے الائی کلاں ۳ ماشہ - تیزبات
 ۳ ماشہ - پینڈیہ شنگ اتولہ - ائیرن ۳ ماشہ - پینلوچن اکوڈ ۳ ماشہ
 صفت بادیان ۳ ماشہ - صفت پودینہ ۳ ماشہ - صفت اجوائیں ۳ ماشہ
 شرعیہ کربا دی اتولہ - دھنیا شنگ ۳ ماشہ - پوجست پیلینہ زرد اتولہ
 پیلینہ کالی اتولہ - پیلینہ سیاہ اتولہ - کرٹ چھان کرٹ لگا کر نہ ہیز
 ڈھائی لالہ - آب کچور - عرق کلاب - عرق نشاغ - آب آدرک لگا کر پڑھیں
 بعد نماز ۲۱ ماشہ تازہ پانی کے ساتھ کھالیا کریں۔

سرفوف ریاح

ہوائن اور شکر ہوتوں مقدار دو ذراک ۶ شہ شام کو سوتے وقت
 ہوائن کو سرفوف کر کے چھان لیں پھر شکر ملائیں پھر ۱۰ ماشہ بچانک
 کر تازہ پانی پی لیں۔

حب نزلہ

ردی مصطکی ۱ ماشہ - زعفران ۱ ماشہ - ائیرن ۱۲ ماشہ سب کر کرٹ چھان
 کر کرٹ چھان کر کرٹ چھان کر کرٹ چھان کر کرٹ چھان کر کرٹ چھان
 چھانیں - نزلہ و کام اور کھاشی میں مفید ہے - مٹی کے پے کو بھجوا دینی ہے۔

درازی عمر کا اتولہ لشخہ

حضرت خواجہ زین الدین کربانی حسب ذیل بیجون تیار کر کے
 استعمال کرتے تھے - ان لوگوں کی لمبی عمر مشہور ہے - موسم لی
 کے بعد یہ لشخہ خواجہ محمد ترک کے ہاتھ میں آیا وہ سہرا ندپ ملک میں
 تھے - اس بیجون کو کام میں لاتے تھے - ان کی عمر دس سال سے کم
 نہیں تھی - اجرائے بیجون یہ ہے۔

سادج ہندی - جوز دیاں - قر قفل - ہیز باؤ - آملہ شہرہ زنجبیل
 دار طفیل - گل سرخ - سیاہ دانہ - بلیہ - زیرہ - ہوتوں مشکر بنا کر
 قوام بنالیں۔

روزانہ صبح شام استعمال کریں۔

برائے قوتِ بیاہ

(مستقل میان عمیق گجراتی ۴۔ مہینہ سرخ۔ مہینہ سفیدہ غلبہ شباب
 عاقر قرصا۔ موچرس۔ موہنی سیاہ۔ تخم اشکن۔ تاملکھانہ بیج پتھر
 سنگاھارا۔ بیج اسفند۔ فلفل کبرہ۔ مہطگی زردی۔ زعفران۔ زاپہنی
 تمناں بتر۔ انانچی۔ ناگت کبیر۔ مہتر بادام۔ مہتر اخروٹ۔ مہتر لیتہ
 شنگ۔ قراقل۔ کباب چین۔ اگر۔ سیستان۔ ہبلی۔ اندر
 خاوشنگ۔ تخم کوب۔ مہتر کوب۔ مہتر کوب۔ مہتر کوب۔ مہتر کوب۔ مہتر کوب۔
 فلفل دودا۔ یہ سب دوا کوٹ کر موئے کپڑے میں چھان کر تیر ہفتہ
 غسل توام لاکر دوا میں ڈالے۔ مچون بہت کر رکھے۔

ہر روز ایک دو سو تے وقت کھائے۔

تیل مقوقی در مارشا کھنڈا

چینیسی کو تیل ایک چھانک۔ عطر صندلی۔ ابلوند ملا کر سر پر
 مالش کریں۔

دیگرو۔ تیل خالص تیل ایک یاد رکھی خالص مینیس آدھی چھانک
 لاکر سر پر مالش کریں۔

برائے عارضہ دست شکم۔ ایک بول کر شکر درخت کے نیچے بھولی کی چوڑ
 چھیل کر بوتل میں داخل کر کے گڑ میں تھمے ایک ہاتھ اندر و فن کر دیں ایک ہ
 کے بعد اس جگہ کو کھنڈ کر بوتل نکال لیں۔ تمام شکر مثل شربت ہو جائے گی۔
 ایک چھ بانی میں ناکر پھیں۔
 ختم شد

برائے صرع۔ ہنیرہ گاڈزبان عنبری۔ جدر اور غرد صلیب الہ
 لاماشہ تہارتہ نکھائیں۔ مچون زہیب موتے وقت۔ ماشہ قرص
 غرد صلیب موتے وقت ایک ایک غلذ۔ دوا دار المسک استقل
 بواہروالی عرق گلاب یا عرق بیدمشک اتولہ ماشہ میں حل کر کے
 دورہ کے وقت لائیں۔

درد۔ مشیر کی چربی کو زرد زالی جگہ پر لیں۔

صرع۔ یا تھی کا پیتاب دورہ کے وقت مریض کے ناک میں لگائیں
 اگر کسی ناک سے لگنے کو چھوڑ کر کسی دوسری ناک سے لگائیں
 ایک کپڑا بربٹک سفید رنگ کا اسے فوراً ہلاک کر دیں۔ مریض
 کو تھیل آگرم ہو جائے رہتا

ناقوت چا بار یک سفوت بنا کر شہد میں ملا کر
 ایضاً۔ پھینٹ دیں۔ مریض کو صبح و شام ایک ایک چمچ
 استعمال کریں۔ مریض کے واسطے بازو میں خود صنیب نو مادہ
 سفید رہ کر یا سفید کپڑے میں بیل کر پانڈھیں۔

بیر ہائیز۔ پیادل، دودھ، ریشہ زہنی اور بادی چشتریوں
 سے پر ہنر کریں۔ مریض کے سر پر روغن کا ہوا روغن کدر لگوائیں
 مریض کی ناک میں روغن قرنی یا روغن دھتورا لگائیں

مشر سے خون آنا۔ اگر مریض کے منہ سے خون آتا ہے۔ دوا وجود
 کے نہ پانڈھو تو دوا گھاس کو خوب صاف کر لیں اور بیل پر پھیں کر
 چھان کر مریض کو پلا لیں۔ انشاؤ اللہ خون بند ہو جائے۔

اگر عورت کو استحاضہ کی شکایت ہے، بہت نہیں ہوتا تو سرد
 سنگہ اہت اور دم الا خوابوں کو خوب ہاؤیکہ۔ نہیں کہ سفوف
 بنائیں۔ صبح شام دو پہر پانی کے ساتھ کھالیں۔
 لنتی واسطے نوت یاہ۔۔ کا پھل کو تھکے کافور، مشک، زیزہ
 سیاد، زیزہ، گرنج، تھنہ، مویز، س۔ بلار، موصلی، کیکر، ویرہا،
 نیل، بی۔ تخم کیوبیہ۔ بیج کیلا، تخم جنج۔ بیج ستا اور، اجول۔
 تخم انکا، تخم مکھانہ، ماش، کونف۔ دھانیا، چاندنی، کیچور۔ نادر، جھیل
 بوزہ، اسکند۔ ہر ایک کو پانی کے ساتھ کھالیں۔
 مریچ، جینٹا۔ تھ پیرچ۔ الائی کمان، مذاغ، کیسر۔ لہ، ہیرنیا۔ کھنڈ
 دانکہ، ویدسا۔ اندھا، ہارسا، سال، ملنجا۔ جو کھار۔ ہرے، رہیہ، اناکہ
 نسخہ برائے یواسیر
 ۱۔ رسوت۔ ۵۰ گرام، مصطکی ۱۵ گرام، گندناہ ۱۵ گرام، ہصبر، بھون
 لیکر کوٹ چھان کر مٹر کے برابر گولیاں بنالیں۔
 ۲۔ ابوا، بن خراسانی ۷ ماشہ۔ جو کیہ، سہاگہ ۳ ماشہ، گول مریچ ۱ تولہ
 معہر ۲ تولہ۔
 چونکہ سہاگہ کو توبے پر گرم کر لیں۔ پھر نڈرہ تمام استیار
 لعاب گھسیکا اور میں ملا کر دن رات کو مٹر کے برابر گولی بنالیں
 رات میں سوتے وقت ۲۔ ۲ گولیاں کھائے جو جائیں۔
 پڑھیں۔ شیش، بادلی اور کٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔

سفوف و مہرہ۔ عود، سیلب کو کوٹ چھان کر مٹر کے برابر گولیاں بنالیں
 اور تھنوں کو ہر ماشہ۔ پڑوس کو ۱۵ ماشہ، صبح دشا، تازہ پانی کے
 ساتھ استعمال کریں۔ مردوں اور بچوں کے لئے زعفران سیلب
 اور عورتوں اور بچوں کے لئے مادہ عود سیلب استعمال کریں۔
 متجون و مہرہ مریچ
 عود سیلب ایک حصہ۔ تین حصہ شہد میں پکا کر متجون
 صبح دشا، ہر ماشہ، تازہ پانی کے ساتھ استعمال
 کریں۔ یا اس کے ساتھ دھانیا کھالیں۔
 دوا فلسفہ یا
 کھوئی پتی اکیس عدد مریچ سیاہ سات عدد پستہ چھان
 لیں اور ریش کو صبح و شام ملا لیں۔
 تیل سر کے درد کا
 کڑوا تیل ایک چھٹائی، رومی مصطکی سوا تولہ تیل میں
 پکا کر مہر میں مالش کریں۔ درد نڈرہ ہوگا۔
 دوا جنون دماغ۔ دھن، اکسیر شفا، دو۔ دو گولیاں صبح دشا استعمال
 کریں۔ یا اسہول تازہ پانی میں صبح و شام ۴۔ ۵ ماشہ پیسکر ۳ عدد
 انڈا، مریچ سیاہ کے ساتھ چھان کر ملا لیں۔ زیادہ صوبز ۱۰ ماشہ سیاہ مریچ
 تیل درفع زہار
 ایک تولہ تیل، انڈا، نکال کر ایک چھٹائی کڑوا تیل میں پکا کر پڑھیں کریں

دو اسپیشلک :- جراثیم و دماغ کے دودھ میں گھسکرے تھے وہی وہی نام
 پلائیں اور انڈے کے پتے پر گھی پوت کو ملا کر نیم گرم کر کے پیٹ پر باندھیں
 دو اے ام الصبیحان

عید سبک آرتی - چند میدہ تر ۲ رقی - مشک ۲ رقی صبا کو ایک
 سرائیہ ملا کر پیس کر سفوف بنالیں ، اور ۲ چاول صبح ۲ چاول شام ،
 ماں کے دودھ میں استعمال کر لیں ۔

حسب سرفقہ یعنی برائی نکھائی کیلئے

ایڑوں کا لعل پونہ کے پتے سے لگا کر دماغ میں گھسکرے تھے وہی وہی نام
 کن در روت ، ہلھی چر ایک سات سات مانتہ کوٹ پیسکر جنگلی سیر
 کے برابر گولیاں بنائیں ۔ پھول ، بوڑھوں اور جوانوں سب کے لئے
 فائدہ بخش ہے ۔ گھس کر چٹائیں اور سر سے تلہ پانی یا گرم پانی
 ملائیں ، پھول کو ایک گولی یا نصف بیڑوں کو دو گولی ۔

تیل لقوہ و فاج

سوا توڑ تیل اٹھا ۔ ماشہ سوکھ ، ایک چھٹا تک تیل زیر تری
 سب کو ایک ساتھ ریکا کرنا ۔ استعمال کریں ۔

سختی بائی کی دغا اور دوا

تین ماشہ ، دسنا ، ڈیڑھ بارشہ لونگ ، دوتوں کو سیر ، کورونڈ
 کٹی کی طرف ایسب کریں ، اور دغا اسکن کرنا اتیل پر دم کر کے سر
 پیشانی پر مالش کریں ۔ انشاؤا شفا ہوگی ۔

متحدہ بی چینی

نقش برائے ترقی روزگار و دوکان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دوکان

عزیزانِ اعلیٰ علیہ السلام

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

۲۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۵	۲

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ
 اَدَمُ صَوَّبَ اللهُ

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ
 اِبْرٰهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ

عزیزانِ اعلیٰ علیہ السلام

عزیزانِ اعلیٰ علیہ السلام

حضرت مخدوم سید اشرف
 جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

برائے اختلاج قلب :- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 هٰذَا الَّذِیْ اَنْتَکَ یَنْصُرُهُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَاللّٰهُ یُؤْتِ
 تِلْکَ الَّذِیْنَ یَنْصُرُوْهُمْ لَوْ اَنْتَ لَنْ تَجِدَہُمْ اِلَّا رِجَالًا
 مَّیْمُوْنًا یَنْصُرُوْهُمْ وَذٰلِکَ اَللّٰهُ اَلْمُبِیْنُ اِنَّہٗ هُوَ الَّذِیْ یُرِیْ

۷۸۶

۱۹	۱۲	۱۶
۱۳	۱۷	۱۸
۱۵	۱۱	۱۳

نقش کا یہ ہے
 اس حساب سے سیدھے نقطوں کے دو نصف
 سے، ہر الف ایک کے حساب سے اعداد کا
 مالک ہوتا ہے جو دو الف کے نقطہ میں پہنچتا ہوا،

۷۸۶

۱۱	۴	۲
۶	۱	۲
۲	۸	۱۰

نقش واضح در دوسرا دیا جائے :-

نقش واضح گردشاہ یاک :-

۳۱۵۰ مرتبہ با وضو پاک لباس پہن کر
 یا سلطان پڑھ کر دماغ مانگے اول و آخر
 سو بار درود شریف پڑھے . اور ۳۰
 دن بلا تامل بعد نماز فجر یہ نقش ایک سو
 بیاسی عدد تکہ کرے میں گولی بنا کر
 دریا میں ڈالے . انشاء اللہ کامیابی
 ضروری ہے . نقش یہ ہے :-

۷۸۶

۵۵	۵۰	۵۴
۵۲	۵۳	۵۱
۵۱	۵۸	۵۲

یہ حق یا سلطان

نقش برائے الفت و محبت باہن زن شومر

۶	۴	۲
۱	۶	۹
۸	۳	۳

لکھ کر بازو پر باندھیں، بحرب و
 آزمودہ ہے .

نقش برائے جملہ حاجات :-

۷۸۶

۲۲	۳۰	۲۹	۱۵
۲۸	۱۶	۲۱	۲۴
۱۴	۳۱	۲۳	۲۰
۱۵	۱۹	۱۸	۳۰

متواتر ایک دن تک روزانہ پڑھے
 اگر زکیم ہو کر رہے
 انشاء اللہ بھلائی میں کامیابی ہوتی

اگر زن عقیمہ حکماء کے علاج سے عاجز
 رہے اسے یہ متعقراز حمل
 ہو چکی ہے تو درج ذیل عمل کرے
 سے انشاء اللہ تین ماہ کا وقت بھی نہ گزرے گا اور حمل تیار
 پا جائے گا . وہ عمل یہ ہے :-

کالی مرچ ایک پاؤ، اجوائن دہیسی ایک پاؤ، دونوں کو ملا کر
 ایک سفوف تیار کریں اور اس پر ۱۲ مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ کر
 دم کریں اور اسے صحت و شفا کے پانچ پانچ اسٹہ روزانہ تین ماہ تک
 استعمال کریں .
 مطلوب طالب کے قدموں پر . زونہری چہرہ کو

برائے حفاظت میدانِ جنگ :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُمّ است یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا فتاح یا فتاح یا فتاح
یا فتاح یا فتاح یا فتاح
یا ذہاب یا ذہاب

اس نقش کو لکھ کر ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ انشا اللہ تعالیٰ تم آج بڑے کامیاب لوگ ہو گے۔ خود صاحب نقش کے ضرورت مند نہیں گے۔ صاحب نقش جنگ

میں اگر بجائے یا زبرد یا زہد، تیغ و تبر کا اثر نہ ہو گا۔ بھرب ہے۔ دفع آسیب کے لئے یہ نقش نرم جامہ برائے آسیب بہ کر کے گلے میں پہناتے ہیں۔ اور اگر گورت ہے تو اس کی

یا خیرم	یا اعلیٰ	یا عرض	یا عثمانی
یا ابو بکر	یا اللہ	یا ابو سحاق	یا امیر
یا قطب الدین	یا حسین	یا زید الدین	یا عبدالستار
لا الہ الا اللہ			

چوڑی میں باندھ دیں۔ انشا اللہ آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے :-

نقش معوذتین :-


۳۶۹۱	۳۶۸۲	۳۶۸۳	۳۶۸۴
۳۶۸۶	۳۶۹۷	۳۶۹۸	۳۶۹۹
۳۶۸۵	۳۶۹۰	۳۶۹۱	۳۶۹۲
۳۶۹۶	۳۶۸۷	۳۶۹۸	۳۶۹۹

برائے سحر و جادو لکھ کر پلا یا جائے اور ایک نقش گلے میں ڈال دیا جائے۔ بھرب و آواز خود ہے۔

سانپ سے حفاظت :- سوتے وقت سلام علیٰ نبیہین

برائے دریا میں حالِ مرض لکھ کر گانگ میں ڈالنے سے قبل دریا کے سر کے چاروں طرف پھرائے۔ پھر گانگ میں ڈالنے جب سرخ ہو جائے تب نکالے۔ اگر سرخ سفید نظر آئے تو بڑھتے رہے۔ اگر سرخ نہ ہو تو خبیث و پھیلے۔ اگر سرخ و غائب ہوں تو آسیب ہے، اگر سیاہ رنگ ہو تو سر میں کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہے۔ نقش یہ ہے :-

برائے مرگی، سفید روغ کے خون میں لکھ کر مرض کے گلے میں ڈالے۔



فقیر حاضری اسبیت وغیرہ

۸	۶	۴	۲
۲	۳	۶	۱
۶	۸	۲	۱۷
۴	۲	۸	۶

عاشق علی نقی انت اقرام
حرف تہجہ علی نقی


فقیر حضرت سیدنا
مخدوم اشرف جہاںگیر
سمانی الثانی رحمتہ اللہ علیہ
فقیر پروردگار پیغمبر

نیما سوت بندھ کر گدھے گھڑے پر کہہ دو چرخ رکھ کر روشن کرے
کچھ خوشبو دار پھول لوان کھڑی پاس پر رکھے تاکہ ہوا سے
وہ پروا قلیے کے بھادے برائے غلط دواؤں پاس بھادیں۔
دین سو مرتبہ کلمہ طیبہ اول و آخرہ دو در کشریف پڑھ کر یہ عین برابرتین
دعا کریں، تیز جو بھی قلیے کے پاس وہ دوہرہ ہووے غریب پاک
صاف دیا دھو ہونا ضروری ہے۔

پیغام شادی بکثرت آویں

یا ایہا النبی إذا أرسلتک
سے کہتے تھو کہ ہرنگ کی جلی
یا کانفر لکھ کر ایک ڈالے میں رکھ کر گھر میں رکھیں، انشاء اللہ وہ ہمیں
کے پیغام بکثرت آئے لگیں۔ یہ آئینہ پارہ ۱۰۷ میں نقش ہے۔
دیگر: نقش سورہ کوثر ۲۲

مرتبہ ۱۵ یوم متواتر پڑھیں۔ اول
و آخر کہہ کر دیکھا رو با درود و شریف
یہ نقش لکھ کر گھر میں رکھیں۔



بازو بند برائے شفا درد منہاں :-

۵۱۳	۳۱۱	۵۱۲	۲۶
۵	۱۳	۵۴	۵
۵۱۳	۵۴	۲	۳
۶	۱۹	۳	۵

بازو بند حضرت
امیر المومنین مولانا کاظم
حضرت سیدنا امام علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لازلزلہ :- یہ دعا برائے درد منہاں صاف پانی پر دم کر کے
پلا کر منہ پر رکھو اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا وحیون
یا وحیما یا علی یا عظیم یا صمد یا فرد یا وشر یا واجر
یا احد یا مستکبر یا جلیل یا حمید یا حمید یا قوی
یا متین یا عزیز یا معجز یا محسن یا مکن یا دینار
یا مسبحان یا سلطان یا بڑھان یا عفران یا مستدان
یا مؤمن یا معین یا آواب یا شواب یا وصاب
یا ایش یا وارید یا مد یا حید یا احد یا مجید
یا محبوب یا احد یا اکبر یا ظاہر یا باظہر
یا اول یا آخر یا سخی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام

بزرگتیاں یا از حتمہ السراجین ط
برائے درد و شکم درد منہاں نقش لکھ کر تین دن کھلاویں۔
موتوں برتوں - تر توں ۱۰ - سترہ ۱۰ - سترہ ۱۰ - موتوں - موتوں

دریاقت اشیا گمشده
 این شیاء گمشده یا امری را
 بر نفس نگاه کریز و دریت و فرمیت اور سکونت بجای تخریر کردی
 بز موکل اس نقش کے تابع ہے وہ خواب میں ہر رات پتہ اور نکل
 حالت آکر بتائے گا۔ نقش کو دعویٰ دیکر سرھانے رکھنا
 سو جائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
 وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برائے فرزند ترمیمہ: عورت جب حیض سے فارغ ہو تین
 دن برابر روزہ رکھے اور درج ذیل آیت مبارکہ کا ورد ۲۳
 مرتبہ روزانہ کرے۔ جب تک بچہ حمل میں نہ آجائے تاخیر نہ کرے
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 فرزند متقی: جو بچی خلوت میں ۲۴ مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 پانچ دن کا پیدائش روز رکھے گا فرزند نیک و پاک: قشار اللہ عالم متقی ہوگا۔

نقش بسم اللہ شریف برائے حملہ عوارض

بِسْمِ	اللّٰه	الرّحیْمِ	الرّحْمٰنِ	الرّحِیْمِ
۱	۲	۳	۴	۵
۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵

حفاظت :- جب حاضر کرتا تصور ہو تو درج ذیل نقش لکھ
 کر نہیں گئے ہاتھ میں دے، مریض اس کو پتہ دیکھے اور عامل درج
 ذیل اسم کو پڑھتا رہے۔ جہاں یہ عمل کرے اس جگہ کو پیلے پاک
 و صاف ٹی سے لپی کرے اور مریض کے سامنے چراغ روشن
 کرے۔ مریض کو قابض رہنے دے۔ نقش یہ ہے۔

الہی بجزات میرا بیٹھی الدین حاضر گرد حاضر گرد

۹۹۹۹۲ دل ۳۱۱۸۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الہی بجزات میرا بیٹھی
 الی الدین حاضر گرد حاضر گرد

